

جدید اضافہ کماٹھ
پنڈیا پبلسن

نماز نبوی

ڈاکٹر سید شفیق الرحمن

تحقیق و تخریج

الشیخ ابوطاہر زبیر علی زئی

حاشیہ

الشیخ عبدالصمد رفیقی

**DAR-UL-BALAAGH
PUBLISHERS IN INDIA**

ح العتيق للنشر والتوزيع، ١٤٢٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الرياض، ١٤٢٦ هـ
٣٢٠ ص؛ ٢١ × ١٣ سم
ردمك:
أ - العنوان
١٤٢٦/٠٠٠
ديوى ٠٠٠

رقم الإيداع: ٠٠٠
ردمك:

© All rights reserved

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording by any information storage and retrieval system, without written permission of the publisher.

Distributed in Saudi Arabia by:

Dar Al-Hadyan Publishers & Distributors
P.O. Box: 15031 Riyadh 11444
Tel: 966-1-461-391 IF: 966-1-463-1685

Distributed in USA by:

Dar-us-salam Book Shop
486 Atlantic Ave N.Y. 11217
Tel:+1 (718) 625 5925 - Fax: 6251511

Distributed in Canada by:

Al-Attique Publishers Inc. CANADA

11 Progress Ave Unit #7 Toronto

Ontario MIP 4S7

Tel: (416) 335-1179 Fax: (416) 335-9293

E-mail: al-attique@al-attique.com & quran@istar.ca

Website: www.al-attique.com

Distributed in Pakistan by:

Al-Attique Publishers
Ismaeel Centre,
110-Chatergee Road, Urdu Bazar,
Lahore 54000 Pakistan

C.Tel: + 92 333 4264878

T.F + 92 42 7911678

Published by:

Dar-ul-Balaagh

Publishers & Distributors

Ind Cross Rajyothsava Nagar,R.G. Road,

Bellary, 583101 KARNATAKA, INDIA

Tel :+ 91(8392) 274372- Mob: + 91-9844008386

www.islamhouse.com - www.allaahuakbar.net

iqra@dartawheed.com - iqrael@yahoo.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست

35.....جنبی کے ساتھ ملنا جلنا.....	11.....ابتدائیہ.....
37.....حیض کے ایام کے ممنوع اعمال.....	16.....مقدمۃ التحقیق.....
39.....حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے.....	17.....خطبہ رحمۃ للعالمین.....
39.....حائضہ کا قرآن پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا.....	19.....احادیث ضعیفہ کا حکم.....
41.....استحاضہ کا مسئلہ.....	طہارت کا بیان
43.....نفاس کا حکم.....	25.....پانی کے احکام.....
غسل کا بیان	26.....رفع حاجت کے آداب.....
44.....غسل جنابت کا طریقہ.....	29.....پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید.....
45.....ایک ہی برتن میں میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا.....	نجاستوں کی تطہیر کا بیان
45.....غسل جنابت کا وضو کافی ہے.....	30.....حیض آلود کپڑا.....
45.....جمعہ کے دن غسل.....	30.....منی کا دھونا.....
46.....میت کو غسل دینے والا غسل کرے.....	30.....شیر خوار بچے کا پیشاب.....
47.....نومسلم غسل کرے.....	31.....کتے کا جوٹھا.....
47.....عیدین کے روز غسل.....	31.....مردار کا چمڑا.....
47.....احرام کا غسل.....	32.....بلی کا جوٹھا.....
48.....مسواک کا بیان.....	جنابت کے احکام
وضو کا بیان	33.....صحبت اور غسل جنابت.....
49.....مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش.....	34.....عورت بھی محترم ہوتی ہے.....
50.....نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھوئیں.....	34.....جنبی کے بالوں کا مسئلہ.....

- 68..... ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔
- 70..... فضیلت نماز۔
- 73..... نمازی اور شہید۔
- 74..... اہمیت نماز۔
- 78..... نماز میں خشوع اور خضوع۔
- اوقات نماز**
- 83..... نماز پنجگانہ کے اوقات۔
- 86..... ائمہ مساجد کو نماز اول وقت پڑھانی چاہیے۔
- 87..... نماز کے ممنوعہ اوقات۔
- 89..... فوت شدہ نمازیں۔
- جہاں دن یارات بہت طویل ہو وہاں نماز کے اوقات۔
- 91..... نمازیں فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں؟
- 92..... نمازی کا لباس۔
- اذان و اقامت**
- 96..... اذان کی ابتداء۔
- 96..... اذان کے جفت کلمات اور تکبیر کے طاق کلمات۔
- 97..... دوہری اذان اور دوہری اقامت۔
- 99..... فجر کی اذان میں اضافہ۔
- 99..... اذان کے فضائل۔
- 101..... اذان کا جواب۔
- 101..... اذان کے بعد کی دعائیں۔
- 102..... وسیلہ کی تشریح۔
- 104..... اذان اور اقامت کے مسائل۔
- 50..... تین بار ناک جھاڑیں۔
- 51..... مسنون وضو کی مکمل ترتیب۔
- 54..... وضو کے بعد کی دعائیں۔
- 55..... وضو کے دیگر مسائل۔
- 56..... خشک ایڑیوں کو عذاب۔
- 56..... تحیۃ الوضو سے جنت لازم۔
- 57..... ایک وضو سے کئی نمازیں۔
- 57..... دودھ پینے سے کلی کرنا۔
- 58..... موزوں پر مسح۔
- 59..... جرابوں پر مسح۔
- 60..... گڈڑی پر مسح۔
- نوافض وضو**
- 60..... شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو۔
- 60..... نیند سے وضو۔
- 60..... ہوا خارج ہونے سے وضو۔
- 61..... قے، نلکیر اور وضو۔
- 62..... جن کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔
- 62..... جن کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔
- تیمم کا بیان**
- 64..... جنابت کی حالت میں تیمم۔
- 65..... زنجی یا سرلیض کا تیمم۔
- 66..... تیمم کا طریقہ۔
- نماز، فرضیت، فضیلت اور اہمیت**
- 68..... اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔

145.....	تو سے کا بیان	108.....	احکام قبلہ
148.....	سجدے کے احکام	110.....	سترہ کا بیان
150.....	عورتیں سجدے میں بازو نہ بچھائیں	110.....	نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ
151.....	نہایت درجہ قرب الہی		نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک
153.....	سجدے کی دعائیں	113.....	نماز کی نیت
154.....	سجدہ تلاوت	115.....	قیام
155.....	سجدہ شکر	117.....	تکبیر اولیٰ
156.....	جلسہ	117.....	سینے پر ہاتھ باندھنا
156.....	جلسے کی مسنون دعائیں	118.....	عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں
157.....	جلسہ استراحت	119.....	ثنا
158.....	تشہد	120.....	تعوذ
158.....	مسئلہ رفع سبابہ	121.....	سورہ فاتحہ
162.....	آخری قعدہ (تشہد)	123.....	آمین کا مسئلہ
164.....	دروود کے بعد کی دعائیں	125.....	آداب تلاوت
168.....	نماز کا اختتام	126.....	نماز کی مسنون قراءت
169.....	جو امور نماز میں کرنے جائز ہیں	126.....	سورہ اخلاص کی اہمیت
170.....	نماز کی مکروہات کا بیان	131.....	مختلف آیات کا جواب
	سجدہ سہو کا بیان	132.....	نماز میں خیال آنا
171.....	تین یا چار رکعات کے شک پر سجدہ	133.....	رفع الیدین
172.....	قعدہ اولیٰ کے ترک پر سجدہ	136.....	رفع الیدین نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ
172.....	نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر چکنے کے بعد سجدہ	141.....	رکوع کا بیان
173.....	چار کی جگہ پانچ رکعات پڑھنے پر سجدہ	142.....	اطمینان نماز کا رکن ہے
174.....	نماز کے بعد مسنون اذکار	144.....	ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کا رکوع میں شامل ہونا

- 179..... فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا
- نماز باجماعت**
- 184..... اہمیت
- 185..... عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت
- 186..... صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم
- 189..... صفوں کی ترتیب
- 190..... صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا
- 191..... صف بندی کے مراتب
- 192..... امامت کا بیان
- 193..... لمبی نماز پر نبی کریم ﷺ کا غصہ
- 194..... نماز کی طرف سکون سے آنا
- 194..... اماموں پر وبال
- 195..... فاسق کو امامت سے ہٹانا
- 196..... نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے
- 197..... امام کی اقتداء کے احکام
- 199..... عورت کی امامت
- 199..... امامت کے چند مسائل
- 201..... دو آدمیوں کی جماعت
- مساجد کے احکام**
- 202..... مسجد کی فضیلت
- 203..... بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب
- 203..... تحیۃ المسجد
- 204..... پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ
- 205..... مسجد میں تھوکنہ
- مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا
- 206..... مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے
- 207..... مسجد میں سونا
- 207..... مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے
- 207..... مسجد میں شعر پڑھنا
- 208..... مسجد میں گفتگو کرنا
- 208..... مسجد جانے کی فضیلت
- 210..... قبرستان اور حمام میں نماز کی ممانعت
- مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلنے وقت کی دعا
- 210..... فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے دعا
- 212.....
- نماز کی سنتوں کا بیان**
- 213..... نفل اور سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں
- 214..... مؤکدہ سنتیں: بہشت میں گھر
- 215..... عصر سے پہلے چار رکعت
- 215..... مغرب سے پہلے دو رکعت
- 216..... جمعہ کے بعد کی سنتیں
- 216..... فجر کی سنتوں کی فضیلت
- 217..... سنتوں کی قضا
- 217..... فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں

243..... جمعہ کے متفرق مسائل	تہجد اور وتر
245..... دوران خطبہ دور کعتیں پڑھ کر بیٹھو	219..... فضیلت
246..... گردنیں نہ پھیلاؤ	220..... نیند سے جاگتے وقت کی دعا
246..... خطبہ جمعہ کے مسائل	224..... تہجد کی دعائے استفتاح
249..... ظہر احتیاطی کی بدعت	225..... تہجد کی کیفیت
250..... محض جمعہ کے دن روزہ رکھنا	226..... طاقت سے بڑھ کر مشقت کی ممانعت
250..... جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت	228..... آپ کی تین دعائیں
250..... جمعہ کی اذان	228..... تہجد میں قراءت
نماز عیدین	229..... قیام اللیل کا طریقہ
253..... مسائل واحکام	230..... پانچ، تین اور ایک وتر
255..... عید گاہ میں عورتیں	231..... تین و تروں کی قراءت
255..... تکبیرات عید	232..... وتر کی نو کعتیں
257..... نماز عید کا طریقہ	233..... و تروں کے سلام کے بعد ذکر
نماز سفر	233..... وتر کی قضا
259..... سفر کی مسافت	234..... دعائے قنوت
259..... مسافر بغیر خوف کے قصر کرے	236..... قنوت نازلہ
260..... قصر کی حد	قیام رمضان
261..... سفر میں اذان اور جماعت	237..... رسول اللہ ﷺ نے تین رات قیام رمضان کیا
261..... سفر میں دو نمازیں جمع کرنا	239..... قیام رمضان گیارہ رکعت
262..... سفر میں سنتوں کا بیان	239..... سحری اور نماز فجر کا درمیانی وقفہ
263..... دو نمازوں کا جمع کرنا	نماز جمعہ
265..... نماز استخارہ کا بیان	240..... جمعہ کی فرضیت
267..... نماز کسوف (سورج اور چاند گرہن کی نماز)	241..... جمعہ کی فضیلت

- 289 میت کا غسل
- 291 میت کا کفن
- 291 مرنے سے پہلے اپنا کفن تیار کرنا جائز ہے
- 292 میت کا سوگ
- 292 میت پر رونا
- 295 اچانک موت
- 295 موت کے وقت پیشانی پر پسینہ
- 295 تعزیت کے مسنون الفاظ
- 296 نماز جنازہ
- 297 جنازہ میں سورہ فاتحہ
- 300 جنازہ کے مسائل
- 301 عائنا نماز جنازہ
- 302 قبر پر نماز جنازہ
- 302 تدفین و زیارت
- 303 میت کو قبر میں رکھتے وقت کی دعا
- 304 قبر پر بطور علامت پتھر نصب کرنا
- 304 قبر پر مٹی ڈالنا
- 304 قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت
- 305 قبروں کی زیارت
- 306 اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا
- 307 ایصال ثواب کے طریقے
- 311 چند ضعیف روایات
- 270 نماز استسقاء
- 274 نماز اشراق و چاشت (صحیٰ)
- فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور سورج نکلنے کے
- بعد دو رکعت پڑھنا
- 276 نماز تسبیح
- 277 صلاة التوبہ
- 279 لیلۃ القدر کے نوافل
- 279 پندرھویں شعبان کے نوافل
- احکام الجنازہ
- 280 بیمار پر سی
- 282 عیادت کی دعائیں
- 286 تجہیز و تکفین
- 286 عالم نزع میں تلقین
- 287 مکہ یا مدینہ میں مرنے کی تمنا کرنا
- 287 موت کی آرزو کی ممانعت
- 287 خودکشی سخت گناہ ہے
- 288 میت کو بوسہ دینا
- 288 میت پر چادر ڈالنا
- فوت ہونے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں
- کو اس کے مرنے کی اطلاع دینا
- 288 میت کی آنکھیں بند کرنا
- 289 میت کو جلد دفن کرنا
- 289 میت کو جلد دفن کرنا

عرض ناشر

لا إله إلا الله محمد رسول الله کے اقرار کے بعد نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ ایک مکمل عبادت ہے، یہ وہ رکن ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا اور نہ کوئی دوسرا آدمی نائب بن کر اسے ادا کر سکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ ﷺ بار بار نماز کی تاکید فرما رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نماز کی قبولیت کا انحصار عقیدہ اور نیت کی درستگی کے ساتھ اس بات پر بھی ہے کہ اسے رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق ادا کی جائے۔

آج نماز کی بہت سی کتابیں موجود ہیں لیکن اکثر میں سنت رسول کی بجائے اپنے اپنے مسلکوں کا دفاع ہے ان میں ضعیف بلکہ موضوع روایات کثرت سے موجود ہیں۔

ڈاکٹر سید شفیق الرحمن حفظہ اللہ نے ”نماز نبوی“ ترتیب دی۔ ان کا انداز عام فہم ہے، کتاب میں نماز سے متعلق تقریباً تمام موضوعات موجود ہیں، اور اہم خوبی یہ ہے کہ صرف اور صرف صحیح احادیث سے استدلال کیا گیا ہے۔

احادیث کی تخریج و تحقیق معروف عالم دین حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ نے کی ہے۔ شیخ عبدالصمد رفیقی حفظہ اللہ (فاضل مدینہ یونیورسٹی) نے حسب ضرورت حواشی تحریر کیے ہیں۔

کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی کتابوں کی نشر و اشاعت کے مرکز ”دار البلاغ“ بلہاری، کرناٹک، انڈیا نے طباعتی معیار پر بھر پور توجہ دی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس کتاب کی اشاعت کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔

آپکا دینی بھائی

ابوعبداللہ

دار البلاغ، بلہاری، کرناٹک

5 جولائی 2005ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم، أما بعد:

گزشتہ دس سالوں میں نماز نبوی کو جو شرف قبولیت حاصل ہوئی، جس طرح عامۃ المسلمین نے اس سے استفادہ کر کے اپنی نمازوں کی اصلاح فرمائی۔ پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں جس طرح اس کی اشاعت ہوئی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے اور پھر میرے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے۔

آج نماز کے عنوان پر ہر زبان میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، ہر کتاب کے مصنف نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ اس کتاب میں اللہ کے نبی ﷺ کے طریقے کے مطابق نماز بیان کی گئی ہے لیکن ان کتابوں کے مطالعہ سے یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے اپنے اپنے مسلک کا پرچار کیا گیا ہے ان میں ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک کو بیان کیا گیا ہے۔

نماز نبوی کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے۔ بطور دلیل حدیث کے حوالے کے ساتھ اس امام کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس کتاب میں صرف انہیں احادیث کو درج کیا گیا ہے جنہیں عصر حاضر کے عظیم محدث الشیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، الشیخ عبدالرؤف سندھو حفظہ اللہ (فاضل مدینہ یونیورسٹی) اور الشیخ زبیر علی زئی حفظہ اللہ نے صحیح قرار دیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ یہ ایڈیشن مزید مفید اضافوں کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے۔

اس کتاب کا انگلش ترجمہ Prayal of Mohammad کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے والدین، میرے اساتذہ، اس کتاب کے ناشرین اور تصحیح و تنقیح کرنے والے علمائے کرام کو اجر و ثواب میں شریک فرمائے اور اس کتاب کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین یا رب العالمین

سید شفیق الرحمن

۹/ربیع الأول/۱۴۲۶ھ ہجری

۱۸/اپریل/۲۰۰۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابتدائیہ

تمام ترجمہ و ثنا اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریق سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف فرمایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾۔ ”اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہیں آپ ان کی توضیح و تشریح کر دیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں“ (النحل: ۴۴)۔

چنانچہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو گئے۔ اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے بالعموم پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے قول و عمل سے اس کا عام پرچار کیا یہاں تک کہ ایک بار نبی رحمت ﷺ نے منبر پر نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع منبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا پھر منبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا: ”میں نے یہ کام اس لئے کیا تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتدا کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو“ (بخاری: الجمعة، باب:

الخطبة على المنبر: ۹۱۷. مسلم: المساجد، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة: ۵۴۴)۔

نیز اس سے بھی زیادہ زور دار الفاظ میں اپنی اقتدا کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا: ”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي“ ”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو“ (بخاری: الأذان، باب: الأذان للمسافر: ۶۳۱)

مزید فرمایا: ”اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وقت پر نماز ادا

کرے رکوع، سجد اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے“۔ (سنن ابی داؤد: الصلوٰۃ، باب: فی المحافظۃ علی وقت الصلوٰۃ: (حدیث ۴۲۰، ۴۲۱) امام ابن حبان نے صحیح کہا)۔

نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کے بعد اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی صلوٰۃ و سلام ہو جو نیکو کار اور پرہیزگار تھے۔ جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کی عبادت، نماز، اقوال اور افعال کو نقل کر کے امت تک پہنچایا اور صرف آپ کے اقوال و افعال کو ہی دین اور قابل اطاعت قرار دیا۔ نیز ان نیک انسانوں پر صلوٰۃ و سلام ہو جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور چلتے رہیں گے۔

اما بعد! اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے اور جو شخص اس کو قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اجر و ثواب اور فضیلت و اکرام کا مستحق ہے پھر اجر و ثواب میں کمی بیشی کا معیار یہ ہے کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اکرم ﷺ کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی وہ اسی قدر اجر و ثواب کا زیادہ حقدار ہوگا اور جس قدر اس کی نماز نبی رحمت ﷺ کی نماز سے مختلف ہوگی اسی قدر کم اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس (نماز) کا دسواں، نواں، آٹھواں، ساٹواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے“۔

(سنن ابی داؤد: الصلوٰۃ، باب ماجاء فی نقصان الصلوٰۃ، ۷۹۶۔ امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا)۔

شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہمارے لئے رسول اکرم ﷺ کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم ہو اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب، پینات اور ادعیہ و اذکار کا علم ہو۔ پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں

وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، (صفة صلوة النبی ﷺ).

یہاں یہ ذکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ایمان باللہ تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے۔ اگر اللہ پر صحیح ایمان نہیں تو تمام اعمال بے کار، لغو اور بے سود ہیں۔ اللہ پر صحیح ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا، بے مثل اور بے مثال مانا جائے۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں اسی طرح شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے۔

اللہ فرماتا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾
 ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں“ (الانعام: ۸۲)

رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق (آیت بالا میں) ظلم سے مراد شرک ہے۔

(بخاری، الايمان، باب ظلم دون ظلم، حدیث ۳۲، مسلم ۱۲۴)

اس سے ثابت ہوا کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (یوسف: ۱۰۶).

”اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں“

لہذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد۔ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا ”نور من نور اللہ“ نہیں۔ اللہ کا کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ، حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود و کھلا شرک ہے۔ یہ بھی مانا جائے کہ کائنات کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ عزت و ذلت اسی کے پاس ہے۔ ہر نیک و بد کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے اور اللہ کے مقابلہ میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں۔ ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور

ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین نازل کرے کیونکہ حلال و حرام کا تعین کرنا اور دین سازی اسی کا حق ہے بلکہ حقیقی اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین محمد ﷺ کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا لہذا آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ وہ احکام ہیں جو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام اور ان کے ذریعے پوری امت تک پہنچائے۔ اور ائمہ حدیث رضی اللہ عنہم نے انہیں کتب احادیث میں جمع کر دیا۔

کتاب و سنت کی بجائے کسی مرشد پیر یا امام کے نام پر فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی پارلیمنٹ کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کے تمام معاملات پر مشتمل ایسے تعزیراتی، مالیاتی، سیاسی، اقتصادی، سماجی اور بین الاقوامی قوانین بنائے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق نہ ہوں۔ نماز کی ادائیگی سے قبل ان عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کا انحصار بالترتیب تین چیزوں پر ہے:

(۱) عقیدہ کی درستگی

(۲) نیت کی درستگی

(۳) عمل کی درستگی

ان میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہونے سے سارا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ کتاب اللہ سنت ثابتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجموعی طرز عمل اور اجماع امت ہی وہ کسوٹی ہے جس پر کسی عقیدہ یا عمل کی صحت کو پرکھا جاسکتا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ”تجدید ایمان“ کا مطالعہ کیجئے جس میں نے عقیدہ سے متعلق آیات و احادیث جمع کی ہیں۔

الحمد للہ نماز نبوی کی ترتیب میں کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحیحہ سے مدد لی جائے۔ اس سلسلہ میں ”القول المقبول فی تخریج صلاة الرسول ﷺ“ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جو کہ حکیم محمد صادق سیالکوٹی رضی اللہ عنہ کی کتاب ”صلوة الرسول“ پر عبد الروؤف سندھو حفظہ اللہ فاضل

مدینہ یونیورسٹی کی تحقیق و تخریج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جن دوستوں نے اس کتاب کی ترتیب و تزئین میں تعاون کیا ہے ان تمام معاونین کی اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ خصوصاً عبدالرشید صاحب (ناظم ادارہ علوم اسلامیہ، سمن آباد جھنگ) کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر پوری کتاب کا مطالعہ کیا اور بعض مقامات پر اصلاح فرمائی۔ آمین

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ایڈیشن کا محترم زیر علی زئی حفظہ اللہ نے مطالعہ کیا۔ زیر علی زئی صاحب جید اہل حدیث عالم ہیں۔ روایات کی اسناد پر خصوصی مہارت حاصل ہے انہوں نے اس ایڈیشن میں موجود احادیث کی صحت کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔

میں حافظ عبدالعظیم اسد دار السلام لاہور کا بھی خصوصی طور پر مشکور ہوں جنہوں نے زیر علی زئی صاحب اور شیخ عبدالصمد رفیقی صاحب سمیت علماء کرام کی ایک جماعت سے کتاب کی تصحیح و تنقیح کروائی۔ ان کے قیمتی حاشیہ سے کتاب بہت زیادہ مفید ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو بھی جزائے خیر دے۔ آمین

اور ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں مدد کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں حسنہ عطا فرمائے۔ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی یہ محنت قبول فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ صحیحہ اپنانے اور سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین

نوٹ: احادیث نمبر مکتبہ دار السلام اور بیت الأوفکار الدولیہ کی شائع کردہ کتب احادیث کے مطابق ہیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

سید شفیق الرحمن



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة التحقيق

قارئین کرام!

نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض عین ہونے پر اجماع ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا: ”پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں“۔ [بخاری کتاب الزکوٰۃ باب وجوب الزکوٰۃ: ۱۳۹۵، مسلم: ۱۹]۔

اور یہ بھی فرمایا کہ: ”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو“ (بخاری ۶۳۱)۔ نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ائمہ مسلمین نے نماز کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً ابو نعیم الفضل بن دکین رحمہ اللہ (متوفی 218ھ)۔ علاوہ ازیں عصر حاضر میں بھی اردو اور علاقائی زبانوں میں متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مگر عصر حاضر کی ان کتب میں ضعیف بلکہ موضوع (من گھڑت) روایات بھی موجود ہیں۔

جناب ڈاکٹر سید شفیق الرحمن صاحب نے عوام و خواص کے لئے عام فہم اردو میں ”نماز نبوی“ کے نام سے کتاب مرتب کی ہے۔ جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث شامل نہ ہونے پائے۔ راقم نے بھی تحقیق و تخریج کے دوران اس بات کی بھرپور سعی کی ہے کہ اس میں صرف مقبول احادیث کو لایا جائے اب میری معلومات کے مطابق اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے لہذا اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر کسی حدیث کی علت پر مطلع ہوں تو راقم کو آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تلافی کی جاسکے۔

ابوظہر حافظ زبیر علی زئی محمدی

فارغ التحصیل جامعہ محمدیہ گوجرانوالہ وفاق المدارس السلفیہ فیصل آباد

ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات (پنجاب یونیورسٹی)

رابطہ: حافظ زبیر علی زئی بمقام حضور ضلع انک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ رحمة للعالمین ﷺ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ (مسلم؛ الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، حديث: ۸۶۸، ۸۶۷).

خط کشیدہ الفاظ جامع ترمذی کے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: ۱)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۰۲)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ۷۰، ۷۱). (ترمذی: النکاح،

باب: ماجاء فی خطبة النکاح: ۱۱۰۵، ترمذی نے حسن کہا ہے، أبو داود، النکاح: ۲۱۱۸، ابن ماجہ: ۱۸۹۲).

”بلاشبہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اور نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

”حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی بات ہے اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد ﷺ کا ہے اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو (اللہ کے دین میں) اپنی طرف سے نکالے جائیں اور ہر بدعت (دین میں نیا کام) گمراہی ہے“۔

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور (پھر) اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا اور (پھر) ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں اور انہیں (زمین پر) پھیلایا، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں (کو قطع کرنے) سے ڈرو بیشک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے“۔

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو“۔

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم (سیدھی اور سچی) ہو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی“۔

تنبیہات:

- (۱) صحیح مسلم، سنن نسائی اور مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خطبہ کا آغاز (إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ) سے لہذا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ بجائے (إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ) کہنا چاہئے۔
- (۲) (نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ) کے الفاظ صحیح احادیث میں موجود نہیں ہیں۔
- (۳) احادیث صحیحہ میں (نَشْهَدُ) جمع کا صیغہ نہیں بلکہ (أَشْهَدُ) واحد کا صیغہ ہے۔
- (۴) یہ خطبہ نکاح، جمعہ اور عام وعظ و ارشاد، درس و تدریس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، اسے خطبہ حاجت کہتے ہیں، اسے پڑھ کر آدمی اپنی حاجت اور ضرورت بیان کرے۔ (دارمی: النکاح، باب: فی خطبۃ النکاح، حدیث: ۲۱۹۸)۔



احادیث ضعیفہ کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ ۳:۵)

”(اے مسلمانوں) آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم
پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو (بطور) دین پسند کر لیا ہے“۔

یہ آیت 9 ذوالحجہ 10 ہجری کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے
کے تین ماہ بعد رسول اللہ ﷺ یہ کامل اور اکمل دین امت کو سونپ کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور
امت کو وصیت فرما گئے: ”میں تمہارے اندر ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں
مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے یعنی اللہ کی کتاب اور اسکے نبی ﷺ کی سنت“۔

(بیہقی، موطا امام مالک: ۸۹۹/۲، القدر، باب النهی عن القول بالقدر، حاکم (۹۳/۱)۔ ابن حزم نے اسے صحیح کہا)

معلوم ہوا کہ اسلام کتاب و سنت میں محدود ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ و فتویٰ صرف
وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ مدلل ہو۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے
جس نے انکار کیا۔ کسی نے پوچھا (اے اللہ کے رسول) انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا
جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار
کیا“۔ (بخاری: الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ ﷺ، حدیث ۷۳۸۰)

عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز
پڑھائی۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی۔ وعظ سن کر ہماری آنکھوں
سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ وعظ تو ایسا ہے

جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں خاص وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے (امیر کی جائز بات) سننا اور ماننا اگرچہ (تمہارا امیر) حبشی غلام ہی ہو۔ میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور (دین کے اندر) نئے نئے کاموں (اور طریقوں) سے بچنا۔ بیشک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے“۔ (سنن ابی داؤد 'السنة' باب فی لزوم السنة' ۶۰۷ و سنن ترمذی 'العلم' باب ماجاء

فی الاخذ بالسنة واحتساب البدعه حدیث ۳۶۷۶)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے نیکی سمجھیں“۔

(’السنة‘ لمحمد بن نصر المروزی ص ۸۲، شرح الاصول للالكائي ۹۲/۱)

امام مالک رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا: ”جس شخص نے اسلام میں نیکی سمجھ کر کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس نے گمان کیا کہ محمد ﷺ نے تبلیغ رسالت میں خیانت سے کام لیا (نعوذ باللہ) رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو چیز دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی“ (الاعتصام للشاطبی ۹۱/۱)

حدیث کے معاملہ میں چھان بین اور احتیاط:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یاد رکھو مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز

(سنت) دی گئی ہے“۔ (ابو داؤد 'السنة' باب فی لزوم السنة' ۶۰۴ ابن حبان (۹۷) نے صحیح کہا)

اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو فرض کیا ہے اسی طرح اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

”اے اہل ایمان! اللہ کی اطاعت کرو اور (اس کے) رسول کی اطاعت کرو۔ اور (اس اطاعت سے ہٹ کر) اپنے اعمال کو باطل نہ کرو“ (محمد: ۳۳)۔

معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح سنت نبوی بھی شرعی دلیل اور حجت ہے مگر سنت سے دلیل لینے سے قبل اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ آیا وہ سنت رسول اللہ ﷺ سے ثابت بھی ہے یا نہیں؟

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”آخری زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے وہ تمہیں ایسی ایسی احادیث سنائیں گے جنہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ لہذا ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنہ میں ڈال دیں“۔

(مسلم، المقدمة، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملہا، ۷)

مزید فرمایا: ”جو شخص مجھ پر عمداً جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنالے“۔

(بخاری، العلم، باب اثم من کذب علی النبی ﷺ، ۱۰۸، مسلم، ۲)

امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے (بات) پہنچا دینے کا حکم دینے کے بعد اپنی ذات پاک پر جھوٹ بولنے والے کو آگ کی وعید سنائی لہذا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ضعیف کی بجائے صحیح اور باطل کی بجائے حق کے پہنچا دینے کا حکم دیا ہے نہ کہ ہر اس چیز کے پہنچا دینے کا جس کی نسبت آپ کی طرف کر دی گئی۔ اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات

بیان کر دے“ (مسلم، المقدمة، باب النهی عن الحدیث بکل ما سمع حدیث ۵)

امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ابن سیرین‘ ابراہیم نخعی‘ طاؤس اور دیگر تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا یہ مذہب ہے کہ حدیث صرف ثقہ سے ہی لی جائے گی اور محدثین میں سے میں نے کسی کو اس مذہب کا مخالف نہیں پایا“ (التمہید لابن عبد البر)

متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے کہ وہ حدیث کے بیان کرنے میں انتہائی احتیاط برتا کرتے تھے۔

ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے سے محض اس لئے گریز کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث میں زیادتی یا کمی ہو جائے اور وہ آپ کے اس فرمان (جو شخص مجھ پر عمداً جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانا آگ ہے) کے مصداق قرار پائیں“۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جو شخص ضعیف حدیث کے ضعف کو جاننے کے باوجود اس ضعف کو بیان نہیں کرتا تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گناہ گار اور عوام الناس کو دھوکا دیتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث کو سننے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے اور ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا بعض احادیث کا ذیبا (جھوٹ) ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو جبکہ صحیح احادیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف احادیث کی ضرورت ہی نہیں بہت سے لوگ ضعیف اور مجہول اسانید والی احادیث کو جاننے کے باوجود بیان کرتے ہیں محض اس لئے کہ عوام الناس میں ان کی شہرت ہو اور یہ کہا جائے کہ ”ان کے پاس بہت احادیث ہیں اور اس نے بہت کتابیں تالیف کر دی ہیں“ جو شخص علم کے معاملے میں اس روش کو اختیار کرتا ہے اس کے لئے علم میں کچھ حصہ نہیں اور اسے عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے“۔

(مقدمہ صحیح مسلم ۱/۱۷۷-۱۷۹)

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے

واجب یا مستحب عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اس نے اجماع کی مخالفت کی (التوسل والوسیلہ)۔

یحییٰ بن معین، ابن حزم اور ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ کے نزدیک فضائل اعمال میں بھی صرف مقبول احادیث ہی قابل استدلال ہیں (قواعد التحدیث)۔

شیخ احمد شاکر، شیخ البانی اور شیخ محمد محی الدین عبد الحمید اور دیگر محققین کا مؤقف بھی یہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”محققین محدثین اور ائمہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب حدیث ضعیف ہو تو اس کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یا آپ نے کیا ہے یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے اور یہ اس لئے کہ جزم کے صیغے روایت کی صحت کا تقاضا کرتے ہیں لہذا ان کا اطلاق اسی روایت پر کیا جانا چاہئے جو ثابت ہو ورنہ انسان نبی ﷺ پر جھوٹ بولنے والے کی مانند ہوگا مگر (انسوس کہ) اس اصول کو جمہور فقہاء اور دیگر اہل علم نے ملحوظ نہیں رکھا، سوائے محققین محدثین کے اور یہ قبیح قسم کا تساہل ہے کیونکہ وہ (علماء) بہت سی صحیح روایات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ”نبی رحمت ﷺ سے روایت کی گئی“ اور بہت سے ضعیف روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”آپ نے فرمایا“ ”اسے فلاں نے روایات کیا ہے“ اور یہ صحیح طریقے سے ہٹ جانا ہے۔ (مقدمہ المجموع)

معلوم ہوا کہ صحیح اور ضعیف روایات کی پہچان اور ان میں تمیز کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف غیر ثابت شدہ حدیث کی نسبت کرنے سے بچا جاسکے۔ علاوہ ازیں عملاً جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے مفاد پرست علماء سوء صرف فضائل ہی نہیں بلکہ عقائد و اعمال کو بھی مردود بلکہ موضوع (من گھڑت) روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ”اول تو یہ احادیث بالکل صحیح ہیں اگر کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بالاتفاق قابل

قبول ہوتی ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ دین اسلام کا اصل محافظ اللہ تعالیٰ ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ دین الہی کی کوئی بات مروی نہ ہو یا مروی تو ہو مگر اس کی تمام روایات ضعیف (حسن لغیرہ سے کمتر) ہوں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز دین الہی نہ ہو مگر مقبول احادیث کے ذخیرے میں موجود ہو۔ دوسرے الفاظ میں جو اصل دین ہے وہ مقبول روایات میں موجود ہے۔ اور جو دین نہیں ہے اس روایات پر مؤثر جرح موجود ہے ان حقائق کے پیش نظر ضروری ہے کہ ضعیف حدیث سے استدلال کا دروازہ بند رہنے دیا جائے۔ واللہ اعلم



طہارت کا بیان

پانی کے احکام:

نماز کے لئے وضو شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح وضو کے لئے پانی کا پاک ہونا شرط ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: ”کیا ہم بضعہ کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟“ یہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ (بضعہ کا کنواں ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں کو بہا کر کنویں میں لے جاتا تھا)۔

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ“

”پانی پاک ہے (اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے) اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی“۔ (ابو داؤد، الطہارۃ، باب ما جاء فی بفر بضعۃ حدیث ۶۶ ترمذی، الطہارۃ، باب ما جاء ان السماء لا ینجسہ شئی (حدیث ۶۶) اسے ترمذی نے حسن جبکہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابن حزم، نووی، رحمہم علیہم نے صحیح کہا)؛ معلوم ہوا کہ کنوئیں کا پانی پاک ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دریائی اور سمندری پانی پاک کرنے والا ہے۔ اور اس کا مردار حلال ہے“ (ابو داؤد، الطہارۃ، باب الوضوء بماء البحر، حدیث ۸۳۔ ترمذی، الطہارۃ، باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور، حدیث ۶۹، اس حدیث کو ترمذی، حاکم (۱۴۰/۱-۱۴۱)، امام ذہبی اور نووی (المجموع، ۸۲/۱) نے صحیح کہا)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جنبی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے“ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا: ضرورت کا پانی لے کر (باہر غسل) کرے۔ (مسلم، الطہارۃ، باب النهی عن الاغتسال فی الماء الراکد: ۲۸۲)

نبی رحمت ﷺ نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر غسل کرنے سے منع فرمایا۔

(بخاری، الوضوء، باب البول فی الماء الدائم، حدیث ۲۳۹، مسلم ۲۸۲)

نبی رحمت ﷺ نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ (ترمذی، الطہارۃ، باب کراہیۃ البول فی الماء الراکد، حدیث ۶۸) اسے ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ اس کے رجال متفق علیہ ہیں دیکھئے صحیفہ ہمام بن منبہ)

رفع حاجت کے آداب

بیت الخلا میں جاتے وقت کی دعا:

انس بن النعمان، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رفع حاجت کے لئے بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)

”اے اللہ! تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تراور مادہ ناپاک جنوں (کے شر) سے“۔

(بخاری، الوضوء، باب ما یقول عند الخلاء ۱۴۲ - مسلم، الحيض، باب ما یقول اذا اراد دخول الخلاء ۳۷۵)

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیت الخلا جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو کہو:

”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ“۔

”میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تراور مادہ خبیث جنوں (کے شر) سے“۔

(ابو داؤد: ۶، ابن ماجہ: ۲۹۶، ابن حبان، حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)۔

بیت الخلا سے نکلنے وقت کی دعا:

عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ بیت الخلا سے نکلنے تو فرماتے:

”غُفْرَانَكَ“. ”اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں“.

(ابوداؤد، الطہارۃ باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، ۳۰ ترمذی، الطہارۃ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، ۷ ابن ماجہ، الطہارۃ، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، ۳۰۰ اس کو حاکم (۱۵۸/۱) ذہبی اور نووی نے صحیح کہا)

رفع حاجت کے مسائل:

ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم قضاء حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ“.

(بخاری، الصلوٰۃ، باب قبلۃ اهل المدینة وأهل الشام والمشرق، ۳۹۴۔ مسلم، الطہارۃ، ۲۶۴، ۲۶۵)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”دولعت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا“ (مسلم، الطہارۃ، باب النهی عن التحلی فی الطرق والظلال۔ ۲۶۹)

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ پکڑے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے“۔ (بخاری، الوضوء،

باب النهی عن الاستنجاء بالیمین، ۱۵۳، ۱۵۴۔ مسلم، الطہارۃ، باب النهی عن الاستنجاء بالیمین، ۲۶۷)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرے وہ طاق ڈھیلے لے“ (بخاری، الوضوء، باب الاستجمار وترا، ۱۶۲، ۱۶۳، مسلم، ۲۳۷)

نبی اکرم ﷺ نے تین (ڈھیلوں) سے استنجا کرنے کا حکم دیا۔ (ابوداؤد، الطہارۃ، باب کراہیۃ استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، ۸ و سنن نسائی، ۴۰) اسے امام دارقطنی اور نووی نے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے اور گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ (مسلم، الطہارۃ، باب الاستطابۃ، حدیث ۲۶۲)

نبی رحمت ﷺ جب رفع حاجت کو جاتے تو (اتنی دور جا کر) بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ

سکتا۔ (ابو داؤد الطہارۃ، باب التخلی عند قضاء الحاجة، حدیث ۱ و ۲)

رسول اللہ ﷺ عموماً بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”جو شخص تمہیں بیان کرے کہ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کو سچا نہ جانو، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے“ (ترمذی: الطہارۃ، باب: ما جاء فی النهی عن البول قائماً: ۱۲)۔

اگرچہ کسی عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش بھی ہے۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ”نبی اکرم ﷺ قوم کے کوڑے کرکٹ کی جگہ پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا“ (بخاری: الوضوء، باب: البول قائماً وقاعداً: ۲۲۴، مسلم: ۲۷۳)۔

نبی اکرم ﷺ پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے۔

(بخاری: الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، ۱۵۰ و مسلم: الطہارۃ، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، ۲۷۰)

ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (ان میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ خوب پاک رہیں، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے انصار! اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کی وجہ سے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیسے طہارت کرتے ہو؟“ انہوں نے کہا کہ ہم ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ (ابن ماجہ: ۳۵۵)۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ (مسلم: الحيض، باب التيمم، ۳۷۰)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رفع حاجت کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے۔

نبی رحمت ﷺ نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔

(ابو داؤد الطہارۃ، باب البول فی المستحم، ۲۷، ۲۸) اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”جب نبی کریم ﷺ بیت الخلا جاتے ہیں ایک برتن میں پانی لاتا آپ اس سے استنجا کیا کرتے تھے پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملتے پھر ایک اور برتن میں پانی لاتا پھر آپ وضو کیا کرتے تھے“۔

(ابو داؤد: الطہارۃ، باب: الرجل یدلک یدہ بالأرض إذا استنجی: ۴۵، ابن حبان نے اسے صحیح کہا)۔

معلوم ہوا کہ استنجا اور وضو کا برتن علیحدہ ہونا چاہیے (ع، ر)۔ اور طہارت کے بعد ہاتھ کو مٹی یا صابن سے دھونا چاہیے تاکہ ہاتھ میں بدبو نہ رہے۔

عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو اور جماعت کھڑی ہوگئی ہو تو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑھے“۔

(سنن ابی داؤد، الطہارۃ، باب أیصلی الرجل وهو حاقن؟ حدیث ۸۸ سنن ترمذی، الطہارۃ، باب ماجاء

إذا اقيمت الصلاة و وجد احدکم الخلاء فليبدأ بالخلاء ۱۴۲۔ اسے امام ترمذی، حاکم (۱۶۸/۱) اور ذہبی نے صحیح کہا)

پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید:

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ”ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغعل خور تھا“ (بخاری، الوضوء، باب من الکبائر ان

لا یستتر من بولہ، حدیث ۲۱۶ و مسلم، الطہارۃ، باب الدلیل علی نجاسة البول و وجوب الاستبراء منه۔ ۲۹۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے سخت پرہیز کرنا چاہئے۔ وہ لوگ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتے، پیشاب کر کے استنجا کئے بغیر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے پا جائے پتلون اور جسم وغیرہ پیشاب سے آلودہ ہو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ پیشاب سے نہ بچنا باعث عذاب اور گناہ ہے۔

نجاستوں کی تطہیر کا بیان

ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: ”اسے چھوڑ دو اور (جگہ کو پاک کرنے کے لئے) اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول

بہا دو“ (بخاری، الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، ۲۲۱ و مسلم، الطهارة، باب وجوب غسل البول و غيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد، ۲۸۴)

پھر آپ نے اس کو بلا کر فرمایا: ”مسجد پیشاب اور گندگی کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لئے (ہوتی) ہیں“ (ابن ماجہ، الطهارة، باب الارض يصيبها البول كيف تغسل، ۵۲۹)

حیض آلود کپڑا:

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ جس کپڑے کو حیض (ماہواری) کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ”اسے چمکیوں سے مل کر پانی سے دھو ڈالنا چاہئے اور پھر اس میں نماز ادا کر لی جائے“۔

(بخاری، الوضوء، باب غسل الدم، ۲۲۷، مسلم، الطهارة، باب نجاسة الدم و كيفية غسله، ۲۹۱)

منی کا دھونا:

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تشریف لے جاتے تھے اور دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا

تھا۔ (بخاری، الوضوء، باب غسل المنی و فرکه، ۲۲۹، و مسلم، الطهارة، باب حکم المنی، حدیث ۲۸۹)

شیر خوار بچے کا پیشاب:

ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے (شیر خوار) بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا، رسول اللہ ﷺ کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھالیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو

آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔

(بخاری، الوضوء، باب بول الصبیان، ۲۲۳، و مسلم، الطہارۃ، باب حکم بول الطفل الرضيع، ۲۸۷)
 لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی گود میں پیشاب کر دیا (جو ابھی شیر خوار ہی تھے) میں نے عرض کیا: کوئی اور کپڑا پہن لیں اور تہ بند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں، تو آپ نے فرمایا: لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ (ابو داؤد، الطہارۃ، باب بول الصبی یصیب الثوب، ۳۷۵۔ ابن ماجہ، الطہارۃ، باب ماجاء فی بول الصبی الذی لم یطعم، ۵۲۲۔ اسے ابن خزیمہ (۲۸۲) حاکم (۱۶۶/۱) اور ذہبی نے صحیح کہا)

کتے کا جوٹھا:

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر کتا کسی کے برتن میں پانی (وغیرہ) پی لے تو برتن کو سات بار پانی سے دھوئے اور پہلی بار مٹی سے مانجھے“
 (مسلم، الطہارۃ، باب حکم و لوغ الکلب، ۲۷۹-۲۸۰)

مردار کا چڑا:

ایک بکری مرگئی۔ نبی کریم ﷺ اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چڑہ اتار کر رنگ کیوں نہیں لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟ لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس کا صرف کھانا حرام ہے۔“ (بخاری، البیوع، باب جلود الميتة قبل ان تدبغ، ۲۲۲، مسلم، الحيض، باب طہارۃ جلود الميتة بالدباغ، ۳۶۳)

ام المؤمنین سودہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہماری بکری مرگئی۔ ہم نے اس کے چڑے کو رنگ کر مشک بنالی۔ پھر ہم اس میں نبیذ (کھجور کا مشروب) ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہوگئی۔

(بخاری، الايمان والنذور، باب اذا حلف ان لا يشرب نبیذا، ۶۶۸)

نبی رحمت ﷺ نے مردہ بکری کا چڑا اتار کر استعمال کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: ”مردار کا

چڑا دباغت دینے (مسالے کے ساتھ رنگنے) سے پاک ہو جاتا ہے۔

(ابو داؤد، اللباس، باب فی أهب المیتة، ۴۱۲۵، اسے ابن السکن اور حاکم نے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ (ابو داؤد، اللباس، باب فی

جلود النمر، ۴۱۳۲۔ ترمذی، اللباس، باب ما جاء فی النهی عن جلود السباع، ۱۷۷۱۔ اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

بلی کا جوٹھا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلی کا جوٹھا نجس نہیں ہے“ (ابو داؤد، الطہارۃ، باب سور الہرۃ، ۷۵۔

ترمذی، الطہارۃ، باب ما جاء فی سور الہرۃ، ۹۲۔ اسے ترمذی، حاکم، ذہبی اور نووی نے صحیح کہا)

سونے چاندی کے برتن میں کھانا:

ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص سونے چاندی کے

برتنوں میں کھاتا پیتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ جمع کرتا ہے۔“

(مسلم، اللباس، باب تحريم استعمال اوانی الذهب والفضة فی الشرب، ۲۰۶۵)



جنابت کے احکام

وجوب غسل کی حالت کو حالت ”جنابت“ کہتے ہیں۔ جس انسان پر غسل واجب ہو وہ جنبی کہلاتا ہے، جنبی غسل کرنے سے پہلے نہ تو نماز ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی کعبہ کا طواف کر سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے:

(۱) جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد۔ (اس میں احتلام بھی داخل ہے)

(۲) صحبت کے بعد۔

(۳) حیض کے بعد۔

(۴) نفاس کے بعد (وہ خون جو بچے کی پیدائش پر جاری ہوتا ہے)

(۵) مرنے کے بعد میت کا غسل۔

(۶) کافر جب اسلام قبول کرے۔

صحبت اور غسل جنابت:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لئے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل

واجب ہو جاتا ہے“ (مسلم، الحیض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین، ۳۴۹)

مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف شرمگاہوں کے ملنے پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزال شرط نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا۔ اگر چہ منی نہ نکلے“۔

(بخاری، الغسل، باب اذا التقى الحتانان، ۲۹۱، مسلم، الحيض، ۳۴۸)

عورت بھی حتم ہوتی ہے:

ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے کہا، اے اللہ کے رسول! یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا (میں بھی آپ سے مسئلہ پوچھتی ہوں) کیا عورت پر غسل ہے جب کہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں“ لیکن جب پانی (منی کا نشان) دیکھے، اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں (ہوتا ہے) تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو“ (بخاری، الغسل، باب اذا احتلمت المرأة، ۲۸۲۔ مسلم، الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، ۳۱۳)۔

اس میں آخری جملہ بددعا نہیں، محض ایک محاورہ ہے، مراد تنبیہ کرنا ہوتا ہے۔ (ع، ر) معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو (یہ احتلام کی علامت ہے لہذا) ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا ایسی صورت میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جنبی کے بالوں کا مسئلہ:

ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندھتی ہوں۔ کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا: ان کا کھولنا ضروری نہیں۔ تیرے لئے کافی ہے کہ تین لپ پانی اپنے سر پر ڈالے پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پس تو پاک ہو جائے گی“ (مسلم، الحيض، باب حکم ضفائر المغتسلۃ، ۳۳۰)

عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ عورتوں کو غسل جنابت کے لئے بال کھولنے کا حکم

دیتے ہیں آپ فرمائے لگیں، ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا وہ انہیں سرمندوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے۔ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے (بال کھولے بغیر) سر پر تین چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔

(مسلم، الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلۃ، ۳۳۱)

معلوم ہوا غسل جنابت کے لئے بال کھولنے کی ضرورت نہیں مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لئے بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ نے غسل حیض کے لئے فرمایا: ”اپنے بال کھولو اور غسل کرو“ (ابن ماجہ، الطہارۃ، باب فی الحائض کیف تغتسل، ۶۴۱ بصری نے کہا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں)

جنبی کے ساتھ ملنا جلنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہولیا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا پھر واپس آیا۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا: ”اے ابو ہریرہ! تو کہاں گیا تھا“ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا: ”سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا“ (بخاری، الغسل، باب عرق الجنب، وان المسلم لا ینجس، ۲۸۳ و مسلم، الحيض،

باب الدلیل علی ان المسلم لا ینجس، ۳۷۱)

نبی رحمت ﷺ کا یہ فرمان کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت، حکمی نجاست ہے، حسی نہیں یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں حکماً اس پر غسل واجب کیا ہے۔ پس جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اختلاط و ارتباط اور کھانا پینا سب جائز ہے۔

مذی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا:

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مذی کثرت سے آتی تھی۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مذی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے داماد تھے اس لئے بالمشافہ دریافت کرتے حجاب آیا تو اپنے دوست مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: ”اگر مذی خارج ہو تو شرمگاہ کو دھولو اور (نماز کے وقت) وضو کرو“۔ (بخاری، الوضوء، باب من لم یرالوضوء الامن المخرجین من القبل والدبر، حدیث

۱۷۸- و مسلم، الحيض، باب المذی، ۳۰۳)

نیز فرمایا: ”اور کپڑے پر جہاں مذی لگی ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے“ (ابو داؤد، الطہارۃ، باب فی المذی، ۲۱۰، ترمذی، الطہارۃ، باب فی المذی یصیب الثوب، ۱۱۵، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا)

مذی، منی، ودی کا فرق:

مذی: اس چسپکتے ہوئے لیس دار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر نمودار ہوتا ہے۔

منی: عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔

ودی: وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔

سیلان رحم موجب غسل نہیں:

جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا۔ حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیں۔



حیض کے مسائل

حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کے رحم سے ہر ماہ نکلتا ہے اس کا کم سے کم وقت ایک دن اور ایک رات ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے، عام طور پر چھ یا سات دن آتا رہتا ہے۔

حیض و نفاس کے ایام میں ممنوع اعمال

۱- نماز اور روزہ کی ممانعت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ روزہ رکھتی ہے“ (بخاری، حیض، باب ترك الحائض الصوم، ۳۰۴۔ مسلم، الايمان، باب بيان نقصان الايمان ۷۹)

ایک عورت معاذ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے، نماز کی نہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔“

(مسلم، حیض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلوة، ۳۳۵)

۲- حائضہ سے صحبت کرنے کی ممانعت:

حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں

فرمایا: ﴿فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

”پس (ایام) حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو (یعنی صحبت نہ کرو)“

اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص بحالت حیض اپنی

عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ نصف دینار خیرات کرے“ (ابوداؤد، الطہارۃ، باب اتیان

الحائض، ۲۶۴، وترمذی، الطہارۃ، باب ماجاء فی الکفارة فی ذالک، ۱۳۶۔ امام حاکم، ۱/۱۷۱-۱۷۲ اور ذہبی

نے اسے صحیح کہا)

دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا ہے نصف دینار سوادو ماشے سونا ہوا۔ سونے کی قیمت صدقہ کرے یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لئے توبہ کرے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر حیض کا رنگ سرخ ہے تو ایک دینار اور اگر حیض کا رنگ پیلا ہے تو نصف دینار خیرات کرے (ترمذی: ۱۳۷، ابو داؤد: النکاح ۲۱۶۹، البانی نے موقوف روایت کو صحیح کہا)۔

۳- طواف کعبہ کی ممانعت۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کو گئی، راستہ میں مجھے حیض شروع ہو گیا، رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا: ”کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟“ میں نے عرض کی کہ ہاں! آپ نے فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، پس تم ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے، اور وہ تم (حیض سے پاک ہو کر) غسل کرنے کے بعد کرنا“۔

[بخاری: العمرة، باب: عمرة الثقیم: ۱۷۸۵، مسلم: ۱۲۱۶]۔



حیض اور نفاس میں جائز امور

حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے:

سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض (یعنی ماہواری کا خون) سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے“ (مسلم، حیض، باب جواز غسل الحائض راس زوجہا ۳۰۲)

یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا اور بوس و کنار وغیرہ سب باتیں جائز ہیں سوائے مجامعت کے۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مجھے (حالت حیض میں) ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی۔ آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ (بخاری، حیض، باب مباشرة الحائض، حدیث ۳۰۰، و مسلم، حیض، باب مباشرة الحائض فوق الازار، ۲۹۳)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مسجد (میں اپنی اعتکاف گاہ) سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا، میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے“ (مسلم، حیض، باب جواز غسل الحائض راس زوجہا ۲۹۸)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”نبی رحمت ﷺ میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی“ (بخاری، حیض، باب قراءة الرجل فی حجر امراته وہی حائض، ۲۹۷۔ مسلم، حیض، باب جواز غسل الحائض راس زوجہا ۳۰۱)

حائضہ کا قرآن پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا:

حالت جنابت و حیض میں قرآن حکیم کی تلاوت کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔

اذکار کی بابت امام نووی فرماتے ہیں: ”حائضہ کے لیے تسبیح و تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالاجماع جائز ہیں“ (المجموع)

اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں: میں حج کے دنوں میں حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیت اللہ کے طواف کے علاوہ ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے“۔
(بخاری، الحيض، باب الامر بالنساء اذا نفسن، ۲۹۴، و مسلم، الحج، باب بيان وجوه الاحرام، ۱۲۱۱)
اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ حائضہ طواف کعبہ کے علاوہ حج کے باقی تمام اعمال کر سکتی ہے۔

ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عید گاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ (بخاری، العیدین، باب اعتزال الحيض المصلی، ۹۸۱، مسلم، ۸۹۰)
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔

(مسلم، الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، ۳۷۳)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حائضہ اور جنبی ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔

استحاضہ کا مسئلہ

استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیض کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہئے کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض کے حکم سے مختلف ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حمیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں (بوجہ خون استحاضہ) پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، خون استحاضہ ایک (اندرونی) رگ سے (بہتا) ہے اور یہ خون حیض نہیں ہے۔ پس جب تجھے حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے (اور خون استحاضہ شروع ہو) تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھوا اور نماز پڑھ“۔

(بخاری الحیض، باب الاستحاضة، ۳۰۶ و مسلم الحیض، باب المستحاضة وغسلها، ۳۳۳)

فاطمہ بنت ابی حمیش رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حیض کا خون سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے اگر یہ آئے تو نماز سے رک جا اور اگر کوئی اور رنگ ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ اس لیے کہ یہ رگ (استحاضہ) کا خون ہے“ (ابو داؤد: الطہارۃ، باب: من قال إذا أقبلت الحیضۃ تدع الصلاۃ: ۲۸۶)۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ”ہم حیض کے علاوہ باقی دنوں میں پیلے یا مٹیلے رنگ کی کچھ پرواہ نہیں کرتی تھیں“ (بخاری: ۳۲۶، أبو داؤد: ۳۰۷)۔

حاصل کلام یہ کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے۔

خون حیض بلوغت کی علامت ہے اگر یہ عادت کے مطابق آئے تو یہ صحت کی علامت ہے اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت ہے چونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور حیض کی مدت گزر جانے کے باوجود

نہیں رکتا اس لئے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں لہذا اس مسئلہ کو بالوضاحت سمجھنا ضروری ہے:

(۱) خون حیض گاڑھا سیاہ اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے۔ جب اس کی مدت ختم ہوتی ہے تو خاکی یا زرد رنگ کا خون اگر جاری رہتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے۔

(۲) اگر خاتون حیض اور استحاضہ کا فرق پہچانتی ہے تو وہ اس کے مطابق عمل کرے گی یعنی حیض آنے پر نماز چھوڑ دے گی اور حیض کے بعد استحاضہ کے دوران ہر نماز کے لئے الگ وضو کر کے نماز ادا کرے گی۔

(۳) اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں ہے البتہ حیض اسے عادت کے مطابق آتا ہے تو وہ عادت کے دنوں میں نماز ترک کرے گی اور ان کے بعد جو خون آئے گا اسے استحاضہ سمجھے گی۔

(۴) اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں ہے اور حیض بھی عادت کے مطابق نہیں آتا تو وہ اپنی قریبی رشتہ دار خاتون (جو مزاج اور عمر میں اس جیسی ہو مثلاً بہن وغیرہ) کی عادت کے مطابق عمل کرے گی حتیٰ کہ اسے پہچان ہو جائے یا اس کی اپنی عادت بن جائے واللہ اعلم (ع، ر)

مستحاضہ کے احکام:

- ۱- حیض کے خاتمہ کے بعد عورت غسل کرے گی۔
- ۲- رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ بنت حبیبہ کو حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو (بخاری: ۲۲۸)۔

۳- عورت ہر وہ کام کرے گی جو ایک پاک عورت کرتی ہے یعنی وہ نماز ادا کرے گی، روزہ رکھے گی، اعتکاف کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔

۴- مستحاضہ عورت سے صحبت کرنا جائز ہے۔ حمنہ بنت جحش سے روایت ہے کہ ”انہیں استحاضہ کا خون آتا تھا اور ان کے خاوند (اس حال میں) ان سے صحبت کرتے تھے“۔

نفاس کا حکم

بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چالیس دن بیٹھا کرتی تھیں (نماز وغیرہ نہیں پڑھتی تھیں)۔

(ابو داؤد الطہارۃ، باب ماجاء فی وقت النفساء، ۳۱۱- ترمذی، الطہارۃ، باب ماجاء فی کم تمکث

النفساء، ۱۳۹- ابن ماجہ، ۶۴۸، سے امام حاکم/۵ اور حافظ ذہبی نے صحیح، جبکہ امام نووی نے حسن کہا)

اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم عین اور تابعین رضی اللہ عنہم کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے۔ اگر چالیس روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”نفاس کی مدت چالیس دن ہے الا یہ کہ خون پہلے ہی بند ہو جائے“ (بیہقی)

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر عورت کو ولادت کے بعد خون آتا ہی نہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے“۔

نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے۔
رسول اللہ ﷺ ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔

(ابو داؤد، الطہارۃ، باب ماجاء فی وقت النفساء، ۳۱۲- سے امام حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)



غسل کا بیان

غسل جنابت کا طریقہ:

غسل جنابت کرنے والا سب سے پہلے غسل کرنے کا ارادہ یعنی نیت کرے گا۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ، جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا، زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کہنیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا۔ تین بار سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔

(بخاری، الغسل، باب تفریق الغسل والوضوء، ۲۶۵، و مسلم، الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ۳۱۷)

میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”میں نے غسل کے بعد جسم صاف کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کو کپڑا دیا مگر آپ نے نہیں لیا“ (بخاری: ۲۶۶، مسلم: ۳۱۷)۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ”کسی حدیث میں (غسل جنابت کا وضو کرتے وقت) سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے“ (فتح الباری، شرح صحیح البخاری)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا۔ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے: ”جنابت کے وضو میں سر کے مسح کو ترک کرنا“۔

(نسائی، الغسل، باب ترك مسح الراس في الوضوء من الجنابة، حدیث ۴۲۰ - ۲۰۵/۱)

امام ابوداؤد فرماتے ہیں: ”میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب (غسل سے قبل) وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسح کس لئے کرے جب کہ وہ اپنے سر

پر پانی ڈالے گا“.

ایک ہی برتن میں میاں بیوی کا کھٹے غسل کرنا:

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”میں اور رسول اللہ ﷺ ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے“ (بخاری، الغسل، باب تحلیل الشعر، ۲۷۳، مسلم: ۳۱۹)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ نے ایک لگن سے پانی لے کر غسل کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے لگن میں بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں جنبی تھی آپ نے فرمایا: ”بیٹک پانی جنبی (یعنی ناپاک) نہیں ہوتا“ (ابو داؤد: الطہارۃ، باب: الماء لا یجنب: ۶۸).

غسل پردے میں کرنا چاہئے:

ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت ابی طالب سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی۔ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ پر کپڑے سے پردہ کئے ہوئے تھیں۔ (بخاری، الغسل، باب التستر فی الغسل عند الناس: ۲۸۰، و مسلم، الحيض، باب تستر المغتسل بثوب و نحوه ۳۳۶)

غسل جنابت کا وضو کافی ہے:

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غسل (جنابت) کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ (ترمذی، الطہارۃ، باب فی الوضوء بعد الغسل، حدیث: ۱۰۷، و ابو داؤد، الطہارۃ، باب فی الوضوء بعد الغسل، حدیث: ۲۵۰، اسے امام حاکم ذہبی اور ترمذی نے صحیح کہا)

یعنی غسل کے شروع میں وضو کرتے تھے اس کو کافی جانتے اور (نماز کے لئے) دوبارہ وضو نہیں فرماتے تھے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ دوران غسل، شرم گاہ کو ہاتھ نہ لگے۔ (صی)

جمعہ کے دن غسل:

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص

نماز جمعہ کے لئے آئے تو اسے غسل کرنا چاہئے۔ (بخاری: ۸۷۷، و مسلم: ۸۴۴)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن (جمعہ کو) غسل کرے۔ اس میں اپنا سر دھوئے اور اپنا بدن دھوئے“۔

(بخاری: الجمعة، باب هل علی من لم یشہد الجمعة غسل ۸۹۷، و مسلم: الجمعة ۸۴۹)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے“ (بخاری: الجمعة، باب فضل الغسل یوم الجمعة ۸۷۹، و مسلم: الجمعة، باب وجوب

غسل الجمعة علی کل بالغ من الرجال ۸۴۶)

ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جمعہ کے دن غسل واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں۔ ابن حزم اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے۔ میت کو غسل دینے والا غسل کرے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مُردے کو غسل دے اسے چاہئے کہ وہ خود بھی نہائے“ (ابو داؤد: الجنائز، باب فی الغسل فی غسل المیت ۳۱۶۱

ترمذی: الجنائز ۹۹۳ - ابن ماجہ: ۱۴۶۳ - اسے ابن حبان ۵۱۷ اور ابن حزم ۲۳/۲ نے صحیح کہا)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم پر میت کو غسل دینے سے کوئی غسل واجب نہیں کیونکہ تمہاری میت طاہر مرتی ہے نجس نہیں، لہذا تمہیں ہاتھ دھولینا ہی کافی ہے“ (بیہقی ۳۰۶/۱، اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح اور ابن حجر نے حسن کہا)

دونوں احادیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لئے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”ہم میت کو غسل دیتے (پھر) ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے“ (بیہقی ۳۰۶/۱ - حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا)

نو مسلم غسل کرے:

قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں۔

(ابوداؤد، الطہارۃ، باب فی الرجل یسلم فیؤمر بالغسل، ۳۵۵- ترمذی، الجمعة، باب ما ذکر فی الاغتسال
عندما یسلم الرجل، ۶۰۵- اسے امام نووی نے حسن، امام ابن خزیمہ، ۲۶/۱- حدیث ۱۵۴-۱۵۵ اور ابن حبان نے صحیح کہا)

عیدین کے روز غسل:

نافع کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے روز غسل کیا کرتے تھے۔ (موطا امام مالک ۱/۱۷)
حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیدین کے دن غسل کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث ثابت نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم عین کا عمل ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یہ غسل، غسل جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے مستحب ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جمعہ عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہئے“ (بیہقی ۳/۲۷۸)
احرام کا غسل:

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ ﷺ نے غسل فرمایا۔ (ترمذی، الحج، باب ماجاء فی الاغتسال عند الاحرام، ۸۳۰ امام ترمذی نے اسے حسن کہا)
مکہ میں داخل ہونے کا غسل:

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے۔ (بخاری، الحج، باب الاغتسال عند دخول مکة، ۱۰۷۳- مسلم، الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند ارادة دخول مكة، ۱۲۵۹)



مسواک کا بیان

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ جب رات کو تہجد کے لئے اٹھتے تو مسواک کرتے“ (بخاری الوضوء، باب السواک، حدیث ۲۴۵، مسلم، الطہارۃ، باب السواک، ۲۵۵)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”نبی رحمت ﷺ رات کو ہر دو رکعت کے بعد مسواک کرتے۔ (مسلم، الطہارۃ، باب: السواک، ۲۵۶)

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسواک منہ کے لئے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے“۔

(نسائی، الطہارۃ، باب الترغیب فی السواک، حدیث ۱۵ سے ماہ نووی اور ابن حبان نے صحیح کہا)

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی میرے پاس جبرائیل آتے تو مجھے مسواک کرنے کا حکم کرتے تھے۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں اپنے منہ کی اگلی جانب نہ چھیل لوں۔“ (بیہقی ۴۹/۷، امام بخاری نے اس حدیث کو حسن کہا ہے)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں اپنی امت کے لئے مشکل نہ جانتا تو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا“۔

(بخاری، الجمعة، باب السواک، یوم الجمعة، ۸۸۷۔ و مسلم، الطہارۃ، باب السواک، ۲۵۲۔)

آپ ﷺ نے امت کے لئے پسند تو اس بات کو کیا کہ وہ ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرے لیکن مشقت کے ڈر سے حکم دے کر فرض نہیں کیا۔ اللہم صل علی محمد و علی آل محمد۔ (ع.ر.)



وضو کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو اور اپنے سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو“ (المائدہ: ۶).

مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل (جھڑ) جاتے ہیں۔ پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں پاؤں کا نونوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سب گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔“ (مسلم، الطہارۃ باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء: ۲۴۴)

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو (میدان حشر میں) دوسری امتوں کے (بے شمار لوگوں کے) درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید (نورانی) چہرے اور سفید (نورانی) ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ اس طرح ان

کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ (مسلم، الطہارۃ باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ۲۴۷)

وضو سے بلندی درجات:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ (مسلم، الطہارۃ، باب فضل الوضوء، ۲۲۳)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”(جنت میں) مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا“۔

(مسلم، الطہارۃ، باب تبلغ الحلیة حيث يبلغ الوضوء، ۲۵۰)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: ”مشقت (بیماری یا سردی) کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے“ (مسلم، الطہارۃ، باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ، ۲۵۱)

نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھوئیں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو (تین بار) نہ دھولو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ (بخاری، الوضوء، باب الاستحمام و ترا، ۱۶۲، و مسلم، الطہارۃ، باب کراہیۃ

غمس المتوضى و غیرہ یدہ المشکوک فی نجاستہا فی الاناء قبل غسلہا ثلاثا، ۶۷۸)

تین بار ناک جھاڑیں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو (پانی چڑھا کر) تین بار ناک جھاڑو کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ (بخاری، بدء الخلق، باب صفة ابليس و جنوده، ۳۲۹۵، و مسلم، الطہارۃ، باب الايتار

فی الاستنثار والاستحمار (۲۳۸)

سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی اصلیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے۔

مسنون وضو کی مکمل ترتیب:

- (۱) وضو کرنے سے پہلے دل میں وضو کرنے کی نیت کریں۔
- (۲) وضو کے شروع میں ”بسم اللہ“ ضرور پڑھنی چاہئے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”بسم اللہ“ کہ کرو وضو کرو“۔

(نسائی، الطہارۃ، باب التسمیۃ عند الوضوء، ۷۸۔ ابن خزیمہ: ۱۴۴، امام نووی نے کہا ہے کہ اس کی سند جدید ہے) واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف ”بسم اللہ“ کہنا چاہئے۔ ”الرحمن الرحیم“ کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو نہیں“۔

(ابوداؤد، الطہارۃ، باب التسمیۃ علی الوضوء: ۱۰۱، حافظ منذری وغیرہ نے شواہد کی بنا پر حسن کہا) اگر بسم اللہ بھول گئی اور وضو کے دوران یاد آئی تو فوراً پڑھ لے وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بھول معاف ہے۔ (ع، ر)

- (۳) ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”رسول اللہ ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا کو غسل دینے والیوں سے کہا وہ اپنی طرف سے اور وضو کے مقاموں سے ان کا غسل شروع کرو“۔

(بخاری: ۱۶۷، مسلم: ۹۳۹)۔

رسول اللہ ﷺ جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ (بخاری، الوضوء، باب التیمن فی الوضوء والغسل، ۱۶۸، مسلم)

الطہارۃ، باب التیمن فی الطہور وغیرہ، ۲۶۸)

(۴) آپ ﷺ نے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھوئے۔

(بخاری، الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ۱۵۹، ومسلم، الطهارة، باب صفة الوضوء وکماله، ۲۲۶)

(۵) آپ ﷺ نے فرمایا: وضو مکمل کرو اور ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں

کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو الا یہ کہ تم روزہ دار ہو۔

(ابو داؤد، الطهارة، باب فی الاستنثار، ۱۴۲۔ ترمذی، الطهارة، باب فی تحلیل الاصابع، ۳۸۔ اسے ترمذی

حاکم ۱/۱۳۷، ۱۳۸ اور نووی نے صحیح کہا)

(۶) آپ ﷺ نے ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کی اور آدھاناک میں ڈالا اور

ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑا، یہ عمل تین دفعہ کیا۔ (بخاری، الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة

واحدة، حدیث ۱۹۱ و باب الوضوء من التور، ۱۹۹۔ مسلم، الطهارة، باب فی صفة وضوء النبی ﷺ، ۲۳۵)

(۷) پھر آپ ﷺ نے تین بار منہ دھویا۔

(بخاری، الوضوء، باب مسح الراس کله، ۱۸۵، ومسلم، الطهارة، باب: فی وضوء النبی ﷺ، ۲۳۵)

(۸) آپ ﷺ دائرہ کا خلال کرتے تھے۔

(ترمذی، الطهارة، باب ماجاء فی تحلیل اللحية، ۳۱، ابن حبان اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا)

(۹) آپ ﷺ نے دایاں ہاتھ کہنی تک تین بار دھویا پھر بائیں ہاتھ کہنی تک تین بار

دھویا۔ (بخاری، الصوم، باب سواک الرطب واليابس للصائم، ۱۹۳، ومسلم، ۲۲۶)

(۱۰) آپ ﷺ نے سر کا مسح کیا۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصہ سے شروع کر کے

گدی تک پیچھے لے گئے۔ پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔

(بخاری، الوضوء، باب: مسح الرأس، ۱۸۵، مسلم، الطهارة، باب: فی صفة وضوء النبی ﷺ، ۲۳۵)

آپ نے سر کا ایک دفعہ مسح کیا۔ (بخاری، ۱۸۶، مسلم، ۲۳۵)

(۱۱) آپ ﷺ نے کانوں کا مسح کیا شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے

سوراخوں میں ڈال کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا۔

(ابن ماجہ الطہارۃ، باب ماجاء فی مسح الاذنین، ۴۳۹، ترمذی، الطہارۃ، باب ماجاء فی مسح الاذنین، ظاہر ہما و باطنہما، حدیث ۳۶ سے ابن خزیمہ ۱/۷۷۷ حدیث ۱۳۸ نے صحیح کہا)

(۱۲) آپ ﷺ نے دایاں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھویا اور بائیں پاؤں بھی ٹخنوں تک تین بار دھویا۔ (بخاری الصوم، ۱۹۳۴، و مسلم الطہارۃ، باب صفة الوضوء و کمالہ، حدیث ۲۲۶)

(۱۳) آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ (ترمذی، الطہارۃ، باب فی تحلیل الاصابع، ۳۹۔ ابن ماجہ الطہارۃ، باب تحلیل الاصابع، ۴۴۷۔ اسے ترمذی نے حسن کہا)

مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ (ابو داؤد، الطہارۃ، باب غسل الرجلین، ۱۴۸، ترمذی، الطہارۃ، باب فی تحلیل الاصابع، حدیث ۴۰۔ امام مالک نے حسن کہا)

(۱۴) حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب پیشاب کر کے وضو کرتے تو اپنی شرمگاہ پر پانی کا چھینٹا دیتے،

(ابو داؤد، الطہارۃ، باب فی الانتضاح، ۱۶۶، نسائی، الطہارۃ، باب: النضح، ۱۳۵)۔

(۱۵) وضو کرتے ہوئے اعضاء کے دھونے میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے اور وضو ایک ہی وقت میں کیا جائے اعضاء کے دھونے میں وقفہ اور تاخیر نہ ہو۔

(۱۶) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھولے۔ (بیہقی، ۱/۲۲۸، امام بیہقی نے اسے صحیح کہا)

تنبیہات:

(۱) کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے

(ابوداؤد حدیث ۱۳۹) امام نووی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے۔ امام نووی اور امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کا طریقہ ایک چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کانوں کا تعلق سر سے ہے“ (دارقطنی ۹۸/۱) اسے ابن جوزی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شاذ کہا ہے۔

(۳) حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ (گدی کے نیچے) گردن کے (الگ) مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں۔ گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں: ”یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے“

وضو کے بعد کی دعائیں:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں“

تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل

ہو۔ (مسلم الطہارۃ: باب الذکر المستحب عقب الوضوء، ۲۳۴)

ابوداؤد (الطہارۃ، حدیث ۱۷۰) کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے مگر یہ روایت صحیح نہیں۔ اس میں ابو عقیل کا پچازاد بھائی مہول ہے۔

وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“

”اے اللہ! تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ (ہر عیب سے) پاک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں“

(نسائی عمل الیوم واللیلة / اسے امام حاکم، حافظ ذہبی اور ابن حجر نے صحیح کہا ہے)۔

(کسی مجلس کے خاتمہ پر بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے)

وضو کی خود ساختہ دعائیں:

رسول اللہ ﷺ کی سنت سے وضو کے شروع میں (بسم اللہ) اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم ﷺ پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہر عضو کے لئے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔“

وضو کے دیگر مسائل:

۱- وضو کے اعضاء کا دو دو بار اور ایک ایک بار دھونا بھی آیا ہے۔ نبی رحمت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل تین تین بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔

۲- ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا تین تین بار دھونا سکھایا اور فرمایا: ”اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس (تین تین بار دھونے) پر زیادہ کرے پس تحقیق اس نے (ترک سنت کی بنا پر) برا کیا اور (مسنون حد سے تجاوز کر کے) زیادتی کی اور (رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کر کے) اپنی جان پر (ظلم کیا)“ (ابو داؤد الطہارة، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، حدیث ۱۳۵، نسائی ۱/۸۸، ح: ۱۱۴۰ سے امام ابن خزیمہ

اور امام نووی نے صحیح جبکہ حافظ ابن حجر نے حید کہا)

۳- وضو کے بعض اعضا تین بار اور بعض دو بار دھونا بھی درست ہے [بخاری: ۱۸۵، مسلم: ۲۳۵].

خشک ایڑیوں کو عذاب:

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے۔ راستے میں ہمیں پانی ملا۔ ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لئے جلد بازی میں وضو کیا۔ ان کی ایڑیاں خشک تھیں ان کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(خشک) ایڑیوں کے لئے آگ سے خرابی ہے۔ پس وضو پورا کیا کرو۔“

(مسلم، الطہارۃ، باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما، ۲۴۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہئے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح اور تین تین بار دھونا چاہئے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ نبی کریم ﷺ نے اسے دیکھ کر فرمایا: ”واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔“

(مسلم، الطہارۃ، باب وجوب استیعاب جميع اجزاء محل الطہارۃ، ۲۴۳)

تحیۃ الوضوء سے جنت لازم:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے۔ پھر کھڑا ہو کر دل اور منہ سے (ظاہری و باطنی طور پر) متوجہ ہو کر دو رکعت (نفل) نماز ادا کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے“ (مسلم، الطہارۃ، باب الذکر المستحب عقب الوضوء، ۲۳۴)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے بلال! میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے“ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”میرے نزدیک جس عمل پر مجھے (ثواب کی) بہت زیادہ امید ہے

وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی (یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑھے)“ (بخاری، التہجد، باب فضل الطہور

باللیل والنہار۔۔۔ ۱۱۴۹۔ و مسلم، فضائل الصحابہ باب من فضائل بلال، ۲۴۵۸)

کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرائے تو جائز ہے:

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، جب آپ وضو کرنے لگے تو مغیرہ آپ پر پانی ڈالنے لگے آپ نے وضو کیا (بخاری: ۱۸۲، مسلم: ۲۷۴)۔

ایک وضو سے کئی نمازیں:

سیدنا بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور موزوں پر مسح بھی کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”اے عمر میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا۔ (تا کہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز

معلوم ہو جائے)“ (مسلم، الطہارۃ باب جواز الصلوات کلھا بوضوء واحد، ۲۷۷)

معلوم ہوا کہ ہر نماز کے لئے وضو فرض نہیں بلکہ افضل ہے۔

دودھ پینے سے کلی کرنا:

بے شک رسول اللہ ﷺ نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے۔ (بخاری،

الوضوء باب هل یضمض من اللبن؟ ۲۱۱، و مسلم، الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ۳۵۸)

آپ نے بکری کا شانہ کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا۔ (بخاری، الوضوء باب

من لم یتوضا من لحم الشاة والسويق، ۲۰۷، و صحیح مسلم، الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ۳۵۴)

آپ نے ستوکھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

(بخاری، الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم یتوضا، حدیث ۲۰۹)

موزوں پر مسح کرنے کا بیان:

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں میں نبی رحمت ﷺ کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ نے فرمایا: ”انہیں رہنے دو میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا پھر آپ نے ان پر مسح کیا“ (بخاری الوضوء، باب اذا

ادخل رجله و هما طاهرتان، ۲۰۶، مسلم: الطهارة، باب: المسح علی الخفین: ۲۷۴)

شرح بن ہانی فرماتے ہیں: ”میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لئے (مسح کی مدت) تین دن رات اور مقیم کے لئے ایک دن رات مقرر فرمائی ہے“۔

(مسلم: الطهارة باب التوقيت فی المسح علی الخفین، ۲۷۶)

امام نووی، اوزاعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے یعنی اگر ایک شخص نماز فجر کے لئے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے تو اگلے دن کی فجر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔

صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے تین دن اور تین راتوں تک پاخانہ پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں (بلکہ ان پر مسح کریں) ہاں جنابت کی صورت میں (موزے اتارنے کا حکم دیتے)۔

(ترمذی الطهارة: باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم، ۹۶۔ نسائی ۱/۸۳، ۸۴، ۸۸ سے امام ترمذی ابن

خزیمہ ابن حبان اور نووی نے صحیح کہا)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لئے غسل جنابت میں موزے اتارنے چاہئیں البتہ بول و براز اور نیند کے بعد موزے نہیں اتارنے چاہئیں بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کر سکتے ہیں۔

جراہوں پر مسح کرنے کا بیان:

ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جراہوں پر مسح کرنے کا حکم دیا“ (بو داؤد الطہارۃ باب المسح علی العمامۃ ۱۴۶ - اسامہ حاکم اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

صحابہ رضی اللہ عنہم کا جراہوں پر مسح کرنا:

سیدنا عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی جراہوں پر اپنی چپل کے تسموں سمیت مسح کیا۔ (بیہقی ۲۵۱/۱) عمرو بن حریش فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جراہوں پر جو جوتوں (چپلوں) میں تھیں مسح کیا۔ (ابن ابی شیبہ واہن المنذر) ابن حزم رحمہ اللہ نے ۱۲ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جراہوں پر مسح کرنا ذکر کیا ہے۔ جن میں عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن حریش رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہم جراہوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ (ابن ابی شیبہ ۱۷۳/۱) ابوامامہ رضی اللہ عنہم بھی جراہوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ (ابن ابی شیبہ ۱۷۳/۱) نیز انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جراہوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ (بیہقی ۲۸۵/۱) ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جراہوں پر مسح کرنے کے جواز پر اجماع ہے۔ (مغنی لابن قدامہ ۱/۳۳۲ مسئلہ ۴۲۶)

لغت عرب سے ”جورب“ کے معنی:

لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس ۴۶/۱ میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب ہے۔ ”تاج العروس“ میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہیں۔ ”عارضۃ الاحوذی“ میں شارح حدیث امام ابوبکر ابن العربی تحریر فرماتے ہیں۔ جَوْرَبٌ وہ چیز ہے جو پاؤں کو ڈھانپنے کیلئے اون کی بنائی جاتی ہے۔ ”عمدۃ الرعاہ“ میں ہے جراہیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں اور بالوں کی بھی بنتی ہیں۔ ”غایۃ المقصود“ میں ہے کہ

جراہیں چمڑے کی صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ جَوْرَب لغانے یا لباس کو کہتے ہیں وہ لباس خواہ چرمی ہو یا اوننی ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔

پگڑی پر مسح:

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح فرمایا“ (بخاری، الوضوء، باب المسح علی الخفین، ۲۰۵)۔

بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے موزوں اور پگڑی پر مسح کیا۔

(مسلم، الطہارۃ، باب المسح علی الناصیۃ والعمامة، ۲۷۵)

نواقض وضو

شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو:

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے“ (ابوداؤد، الطہارۃ، باب الوضوء، من مس الذکر، ۱۸۱۔ اسے امام ترمذی (الطہارۃ، باب الوضوء، من مس الذکر، ۸۲) نے حسن صحیح کہا)۔

یہ حکم تب ہے جب کپڑے کے بغیر براہ راست ہاتھ لگے واللہ اعلم (ع، ر)

نیند سے وضو:

سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دونوں آنکھیں، سرین کی سر بند (تسمہ) ہیں۔ پس جو شخص سو جائے اسے چاہئے کہ دوبارہ وضو کرے“ (ابوداؤد، الطہارۃ، باب الوضوء، من النوم، ۲۰۳۔ ابن ماجہ، الطہارۃ، باب الوضوء، من النوم، ۲۷۷۔ اسے ابن الصلاح اور امام نووی نے حسن کہا)

ہوا خارج ہونے سے وضو:

رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں

اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک (ہوا نکلنے کی) آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس ہو“۔

(بخاری، الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ۱۳۷، مسلم: ۳۶۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا لہذا جسے پیشاب کے قطروں یا وہم کی بیماری ہو اسے بھی جان لینا چاہئے کہ وضو ایک حقیقت ہے، ایک یقین ہے یہ یقین سے ہی ٹوٹتا ہے۔ شک یا وہم سے نہیں۔
تے، نکسیر اور وضو:

تے یا نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو ابن ماجہ (۱۲۲۱) میں ہے۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں۔ لہذا ”براءت اصلیه“ پر عمل کرتے ہوئے (یہ کہا جاسکتا ہے کہ) خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات رقاہ میں پیش آیا جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کسی دشمن نے ان پر تین تیر چلائے جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔

(ابوداؤد، الطہارۃ، باب الوضوء من الدم، ۱۹۸۔ اسے امام حاکم ۱۱۵۶/۱ اور ذہبی نے صحیح کہا)۔

یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کا علم نہ ہوا ہو یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر صحیح احادیث میں اس کا ذکر نہ ہو۔ اسی طرح جب عمر رضی اللہ عنہ زخمی کئے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔

(موطا امام مالک، الطہارہ، باب العمل فیمن غلبه الدم من جرح اور عاف، ۱/۳۹ و بیہقی ۱/۳۵۷)

اس سے معلوم ہوا کہ خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر لوٹو“۔

(ابو داؤد، الصلاة باب استئذان المحدث الامام، ۱۱۴۔ اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

جب کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے ان کا بیان:

۱- نماز:

فرض نماز ہو یا نفل، نماز جنازہ یا کوئی اور نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی مال حرام سے خیرات قبول ہوتی ہے“ (مسلم: ۲۲۴)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وضو کرے“ (بخاری: ۱۳۵، مسلم: ۲۲۵)۔

۲- طواف کعبہ:

طواف کعبہ کے لیے وضو شرط ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے پس اس میں گفتگو کم کرو“

(ترمذی: مناسک الحج، باب: إباحة الكلام في الطواف: ۲۹۲۲)۔

جب کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے ان کا بیان:

۱- اللہ کا ذکر:

مہاجر بن قنفذ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کسی نے سلام کیا جب آپ پیشاب کر رہے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے جواب نہ دیا۔ فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور فرمایا: میں نے مناسب نہ سمجھا کہ طہارت کے بغیر سلام کا جواب دوں“ (ابو داؤد، الطهارة باب ايرد السلام وهو يبول)

۱۷۔ ابن ماجہ، الطهارة باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، ۳۵۰، حاکم ۱/۱۶۷، ذہبی اور نووی نے صحیح کہا)

ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا آپ نے اس

کے سلام کا جواب نہ دیا پھر آپ دیوار کے پاس آئے، اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا پھر سلام کا جواب دیا“ (بخاری: ۳۳۷، مسلم: ۳۶۹)۔

۲- جنبی آدمی سونے یا کھانے سے قبل وضو کرے:

رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے پوچھا: ”شاید تم جلدی میں نہائے ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ”(حالت جنابت میں) اگر کسی سے فوری ملنا ہو اور نہانے میں دیر لگے تو وضو کرنا ہی کافی ہے“ (بخاری: الوضوء، باب من لم یزال وضوء الامن المخرجین من القبل والدبر، ۱۸۰- و مسلم: الحيض، ۳۴۵)

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا میں رات کو جنبی ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: ”شرمگاہ (آلہ تناسل) دھو ڈال، وضو کر اور سو جا“۔

(بخاری: الغسل، باب الجنب یتوضا ثم ینام، ۲۹۰، مسلم: الحيض، باب جواز نوم الجنب، ۳۰۶)

رسول اللہ ﷺ جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ (بخاری: الغسل، باب الجنب یتوضا ثم ینام، ۲۸۸، مسلم: الحيض، باب جواز نوم الجنب، ۳۰۵)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ دونوں کے درمیان وضو کرے“ (مسلم: الحيض، باب جواز نوم الجنب، ۳۰۸)

۳- ہر نماز کے لیے وضو:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے“ (بخاری: الوضوء، باب: الوضوء من غیر حدث: ۲۱۴)۔

۴- غسل واجب کرنے سے پہلے وضو کرنا:

۵- سونے سے پہلے وضو کرنا جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔

(بخاری: ۲۴۷)۔

تیمم کا بیان

پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی کو وضو یا غسل کی نیت کر کے اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملانا تیمم کہلاتا ہے۔

پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں مثلاً مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے۔ یا پانی کے مقام تک پہنچنے میں جان کا ڈر ہو۔ مثلاً گھر میں پانی نہیں ہے باہر کر فیونا فذ ہے یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں خواہ یہ وجہ برسوں موجود رہے تیمم بھی بدستور جائز رہے گا۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اگرچہ دس برس پانی نہ پائے“ (ابوداؤد الطہارۃ: باب الجنب یتیمم، ۳۳۲، و ترمذی الطہارۃ: باب التیمم للجنب اذا لم يجد الماء حدیث ۱۲۴۔ اسے ترمذی امام حاکم/۱۶۶-۱۷۷ اور امام ابن حبان نے صحیح کہا)۔

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر پر نکلے جب بیدایا ذات الجیش پہنچے تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، رسول اللہ ﷺ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے، لوگ بھی ٹھہر گئے وہاں پانی نہ تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے انہوں نے غصہ کیا اور مجھے برا بھلا کہا۔ رسول اللہ ﷺ میری ران پر سر رکھ کر سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی بالکل نہ تھا تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی“۔

اسید بن خضیر انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے: اے ابو بکر کی اولاد یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے (یعنی اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائدہ دیا)۔ پھر ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو ہمارا اس کے نیچے سے نکلا (بخاری: ۳۳۴، مسلم: ۳۶۷)۔

جنابت کی حالت میں تیمم: اگر پانی نہ ملے یا پانی اتنا کم ہو کہ وضو نہ ہو سکے تو تیمم کیا جاسکتا ہے۔

سیدنا عمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا: اے فلاں! لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا۔ آپ نے فرمایا: ”تجھ پر مٹی (سے تیمم کرنا) لازم ہے۔ پس وہ تیرے لئے کافی ہے۔“

(بخاری، التیمم، باب الصعید الطیب وضوء المسلم، ۳۴۴۔ و مسلم، المساجد، باب قضاء الصلوة الفائتة، ۶۸۲)

اگر کوئی زخمی یا مریض ہو اور پانی کے استعمال سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو:

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا۔ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس واقعہ کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ اللہ ان کو مارے بیشک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ (وہ تیمم کر لیتا۔)“ (ابن خزیمہ، ۱/۲۷۳، ۱۳۸/۱ ابن حبان، ۲۰۰۱ سے حاکم، ۱/۱۶۵ اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)۔ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور شدید سردی ہو یا پانی بہت ٹھنڈا ہو اور غسل کرنا اس کے لئے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہئے۔ مختلم، حائضہ اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس لئے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے۔

تیمم کا طریقہ:

سب سے پہلے تیمم کرنے کی نیت یعنی ارادہ کرے پھر پاک زمین پر ہاتھ مارے پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔

سیدنا عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے اور (پانی نہ ملنے کی وجہ سے) خاک میں لوٹے اور نماز پڑھ لی۔ پھر (سفر سے آ کر) یہ حال رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا: ”تمہارے لئے صرف یہی کافی تھا۔ (اور) پھر نبی اکرم ﷺ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا“ (بخاری، التیمم، باب التیمم هل ینفخ فیہما؟ ۳۳۸۔ و مسلم الحیض، باب التیمم، ۳۶۸)

رسول اللہ ﷺ نے عمار سے کہا کہ ”اٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے اٹے ہاتھ پر مسح کرو پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ کا مسح کرو“ (ابو داؤد، الطہارۃ، باب التیمم، حدیث ۳۲۱)۔

☆ قرآن مجید کے حکم ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (النساء، ۴/۳) کی رو سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہئے۔

☆ تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے اسی طرح شوروالی زمین اور ریت سے بھی جائز ہے۔

☆ ایک تیمم سے (وضو کی طرح) کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھ لینے کے بعد پانی کی موجودگی کا علم ہو جائے تو اسے با وضو ہو کر نماز دھرانے یا نہ دھرانے کا اختیار ہے۔ تاہم اگر دھرا لے تو بہتر ہے۔

ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی پھر انہیں پانی مل گیا اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا، پس ان میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز لوٹائی اور دوسرے نے نماز نہ لوٹائی، پھر انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا پس آپ نے اس شخص سے کہا جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی کہ ”تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری (تیمم والی) نماز تمہارے لیے کافی ہے اور دوسرے شخص سے کہا جس نے نماز لوٹائی تھی کہ تیرے لیے زیادہ اجر ہے“۔ (نسائی، ۲۱۳/۱۔ الغسل، باب التیمم لمن یجد الماء بعد الصلوۃ حدیث ۴۳۳ حاکم اور حافظ ذہبی نے بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا)۔

نماز: فرضیت، فضیلت اور اہمیت

نماز وہ اہم فریضہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات براہ راست رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ ﷺ کو فرمایا کہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی تم اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ اور تخفیف چاہو۔ رسول اللہ ﷺ لوٹ کر گئے حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے محمد! وہ دن رات کی پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز میں دس نمازوں کا ثواب ہے تو یہ وہی پچاس نمازیں ہوئیں“۔

(مسلم: الإیمان، باب: الإسراء برسول اللہ: ۱۶۲)۔

سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کتنی عنایت ہے کہ پانچ نمازیں پڑھیں پچاس کا اجر ملے۔

قرآن مجید میں بہت سی آیات میں نماز کا ذکر ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

”بیشک نماز بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے“ (العنکبوت: ۴۵)۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ (الأعلى: ۱۴، ۱۵)۔

”بیشک فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز ادا کی“۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ☆ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

”ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں“ (المؤمنون: ۲)۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ☆ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ☆ الَّذِينَ يَرِثُونَ

الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

”اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو جنت الفردوس

کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے“ (المؤمنون: ۹ - ۱۱)۔

رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا: ”ان کو دعوت دو کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں“۔

(بخاری: الزکاة، باب: وجوب الزکاة: ۱۳۹۵، مسلم: ۱۹)۔

اس فرضیت سے بچے اور پاگل مستثنیٰ ہیں:

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین انسان مرفوع القلم ہیں: ۱- سویا ہوا جاگنے تک ۲- نابالغ بچہ بالغ ہونے تک ۳- پاگل انسان عقل درست ہونے تک“۔

(ابو داؤد: الحدود، باب: فی المجنون یسرق: ۴۴۰۳)۔

اولاد کو نماز سکھانے کا حکم:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو“۔

(ابو داؤد: الصلوٰۃ، باب متی یؤمر الغلام بالصلاة، ۴۹۵ - ترمذی: الصلوٰۃ، باب ماجاء متی یؤمر الصبی

بالصلوٰۃ؟ ۴۰۷ اسے امام حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو سات برس کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں اور اگر دس برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کاروائی کریں انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں اور دس برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب کا زمانہ ہے اس لئے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔

ترک نماز کفر کا اعلان ہے:

جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی اور شرک و کفر کے

درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے“ (مسلم الايمان' باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلوة' ۸۲) اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔

بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا“ (ابن ماجہ' اقامة الصلوة' باب ما جاء فيمن ترك الصلوة۔ ۱۰۷۹۔ ترمذی الايمان' باب ما جاء في ترك الصلوة ۲۶۲۱ سے ترمذی حاکم ۶/۱ اور ذہبی نے صحیح کہا)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے، وہ قتل نہیں کئے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ مسلمان بھائیو! غور کرو کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔

عبد اللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے“۔

(ترمذی' الايمان' باب ما جاء في ترك الصلوة' ۲۶۲۲ سے امام حاکم ۱/۷ اور ذہبی نے صحیح کہا)

ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو یقیناً اس (کی بابت اللہ کا معاف کرنے) کا ذمہ ختم ہو گیا“۔

(ابن ماجہ' الفتن' باب الصبر على البلاء' ۴۰۳۴ اس کی سند امام ذہبی اور ابن حجر کی شرط پر حسن ہے)

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال ہلاک کر دیا گیا“ (بخاری' مواقيت الصلوة' باب اثم من فاتته العصر'

بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی پس اس کے اعمال باطل ہو گئے“ (بخاری: مواقیب الصلوٰۃ باب التکبیر بالصلوٰۃ فی یوم غیم ۵۹۴)

فضیلت نماز:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پانچ نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے، مٹا دیتی ہیں اور (اسی طرح) ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو“ (مسلم، الطہارۃ باب

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما احتببت الكبائر ۲۳۳)

مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”بھلا مجھے بتاؤ اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز پانچ بار نہاؤ، کیا (پھر بھی جسم پر) میل باقی رہے گا؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: ”نہیں“ آپ نے فرمایا: ”یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے“ (بخاری، مواقیب الصلوٰۃ باب

الصلوات الخمس كفارة ۵۲۸ و مسلم، المساجد، باب المشی إلى الصلاة تمحی بہ الخطایا: ۶۶۷)

النس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ (میں نے گناہ کیا اور بطور سزا) میں حد کو پہنچا ہوں پس مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا (یہ نہ پوچھا کہ کونسا گناہ کیا ہے؟) اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں پس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجئے۔ آپ نے فرمایا: ”کیا

تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟“ اس نے کہا ”پڑھی ہے“ آپ نے فرمایا: ”اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے“ (مسلم، التوبة، باب قوله تعالى: ﴿ان الحسنات يذهبن السيئات﴾: ۲۷۶۴)

اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق ”حد کو پہنچنا“ کہہ رہا تھا معاف کر دیا معلوم ہوا نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جاڑے کے موسم میں نکلے پتے جھڑکا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے آپ نے فرمایا: ”اے ابو ذر!“ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں“ (مسند احمد ۵/۱۷۹، ۲۱۸۸۹، امام منذری ۱/۲۳۸، ۱/۲۳۸ نے اسے سن کہا)

عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے (فجر اور عصر کی) نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا“

(مسلم، المساجد، باب فضل صلاتی الصبح والعصر والمحافظة عليهما، ۶۳۴)

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے (اسے اتنا ثواب ہے) گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور پھر صبح کی نماز باجماعت پڑھے (تو اتنا ثواب پایا) گویا تمام رات نماز پڑھی“.

(مسلم، المساجد، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، ۶۵۶)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں۔ (آنے اور جانے والے فرشتے) نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو رہے وہ آسمان کو چڑھتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے (حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے): تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم

نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھتے تھے“۔ (بخاری، مواقیب الصلوة، باب فضل صلوة العصر، ۵۵۵۔ و مسلم، المساجد، باب فضل صلاتی الصبح والعصر۔ ۶۳۲)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں اگر چہ انہیں سرین پر چلنا پڑے“۔

(بخاری، الاذان، باب فضل العشاء فی الجماعة، ۶۵۷۔ و مسلم، المساجد، باب فضل صلوة الجماعة، ۶۵۱)

سرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں چوڑوں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے یعنی ہر حال میں پہنچیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوگ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب جانتے تو اس کے لیے قرعہ ڈالتے، اگر انہیں ظہر کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں جانے کا ثواب معلوم ہوتا تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اگر انہیں فجر اور عشاء کی نماز باجماعت کا اجر معلوم ہوتا تو گھسٹتے ہوئے (مسجد) آتے“ (بخاری: ۶۱۵، مسلم: ۴۳۷)۔

نبی کریم ﷺ کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہوگئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا اس پر نبی رحمت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: ”ہمیں کافروں نے درمیانی نماز، نماز عصر سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے“۔

(بخاری، الجہاد والسیر، باب الدعاء علی المشرکین بالہزيمة والزلزلة، ۲۹۳۱، و مسلم، المساجد، باب

الدلیل لمن قال الصلوة الوسطی ہی صلاة العصر، ۶۲۷، ۶۲۸)

نمازی اور شہید:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال کے بعد فوت ہوا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے اس لئے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہئے تھا۔ میں نے خود ہی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی (یعنی اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی) تو آپ نے فرمایا: ”جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اور (سال بھر کی فرض نمازوں کی) چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھیں؟ (ان نمازوں اور روزوں کی برکت سے وہ جنت میں پہلے چلا گیا)“۔

(مسند احمد ۲/۳۳۳، ۸۳۸۰، امام منذری ۱/۲۴۴ اور امام بیہقی ۱۰/۲۰۷ نے اسے حسن کہا)

یہی قصہ طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ خود ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ قصہ کس درجہ ایمان افروز اور نماز کی رغبت دلانے والا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح لوگوں کو اپنا خواب سنایا۔ سب کو اس بات پر تعجب ہوا کہ شہید کو (جنت جانے کی) اجازت بعد میں کیوں ملی؟ حالانکہ اسے پہلے ملنی چاہئے تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا: ”اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، بتاؤ! کیا بعد والے شخص نے ایک سال عبادت (زیادہ) نہیں کی؟۔ اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے؟۔ اس نے ایک سال کی نمازوں کے اتنے اتنے سجدے زیادہ نہیں کئے؟۔ سب نے عرض کیا۔ جی ہاں اللہ کے رسول! تو آپ نے فرمایا: ”پھر تو ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو گیا“۔

(ابن ماجہ، الروایا، باب تعبیر الروایا، ۳۹۲۵۔ ابن حبان ۲۴۶۶ نے اسے صحیح کہا)

اہمیت نماز

☆ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا“ (ابو داؤد الصلوٰۃ، باب قول النبی ﷺ کل صلوٰۃ لا یتمہا صاحبہا تتم من تطوعہ، ۸۶۴ حاکم ۱/۳۶۲-۳۶۳۔ اسے امام ذہبی نے صحیح کہا)

☆ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وقت پر نماز پڑھنا“ میں نے کہا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا: ”ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا“ میں نے کہا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے راستے میں جہاد کرنا“ (بخاری، موافقت الصلوٰۃ، باب فضل الصلوٰۃ لوقتہا، ۵۲۷، مسلم الايمان، باب بیان کون الايمان بالله تعالیٰ افضل الاعمال، ۸۵)

☆ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ کا آخری کلام تھا: ”نماز اور غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو“۔

(ابن ماجہ، الوصایا، باب هل اوصی رسول اللہ ﷺ، ۲۶۹۷ ابن حبان، ۱۲۲۰، اسے امام بصری نے صحیح کہا)

☆ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”نماز دین کا ستون ہے“ (ترمذی، الايمان، باب ما جاء فی حرمة الصلوٰۃ، ۲۶۱۶، اسے امام حاکم ۲/۳۱۲ اور امام ترمذی نے صحیح کہا)

☆ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال لیں گے (کیونکہ) سجدہ کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا“ (بخاری، الاذان، باب فضل السجود، ۸۰۶، و مسلم، الايمان، باب اثبات رؤیة

المؤمنین فی الاخرة ربهم سبحانه و تعالیٰ (۱۸۲)

☆ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد ﷺ! خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہیں کتنی محبت کریں آخر ایک دن جدا ہو جانا ہے اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے اور اس میں کوئی تردید نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں (کے مال) سے استغناء (برتنے) میں ہے۔“

(مستدرک حاکم۔ ۴/۳۲۴: ۳۲۵ امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح اور حافظ منذری نے حسن کہا)

یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر صبر، شکر اور قناعت کرے اور لوگوں کے مال میں طمع و حرص نہ رکھے۔

☆ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، پس اس نے کہا، اے محمد! میں نے کہا: اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے تین بار پوچھا۔ میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں (اللہ کا ہاتھ اور انگلیاں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہم انہیں مخلوق کے ہاتھ اور انگلیوں سے تشبیہ نہیں دیتے بلکہ دیگر غیبی امور کی طرح اللہ کی ان صفات پر بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ الحمد للہ [ع ر]) کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی۔ اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد! میں نے کہا۔ میرے رب! میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات (گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں) کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز باجماعت کے لئے پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت (سر دی یا بیماری) کے وقت پورا وضو کرنا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، گفتگو میں نرم انداز اختیار کرنا اور رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں درجات کی بلندی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اپنے لئے جو چاہو دعا کرو“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ“.

”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو (مجھے) تیری محبت کے قریب کر دے“ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میرا یہ خواب حق ہے پس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ“.

(ترمذی، تفسیر القرآن، تفسیر سورۃ ص، ۳۲۳۵۔ اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی پناہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اس کو اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا“.

(مسلم، المساجد، باب فضل صلوة عشاء فی الصبح الجماعۃ حدیث ۶۵۷)

معلوم ہوا کہ صبح کی نماز پڑھنے والے کو ستانا سخت گناہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے اور جو اللہ کی پناہ میں خلل ڈالے گا اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔

جبرائیل کی امامت:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خانہ کعبہ کے پاس جبرائیل ﷺ نے میری امامت کی۔ پس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی..... اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی.... اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی..... اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی..... اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی“.

(ابو داؤد الصلوة، باب فی المواقیت، ۳۹۳۔ ترمذی الصلوة، باب ما جاء فی مواقیت الصلاة، ۱۴۹۔)

اسے امام ترمذی، ابن خزیمہ، حاکم، ذہبی اور ابوبکر ابن العربی نے صحیح کہا)

امامت جبرائیل ﷺ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و ارفع اور اسے مخصوص ہیئت، مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لئے جبرائیل کو ہادی عالم ﷺ کے پاس بھیجا۔ جبرائیل ﷺ نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ ﷺ کو نماز کی کیفیت ہیئت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے اور پھر آپ جبرائیل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا: ”تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو“.

(بخاری، الاذان، باب الاذان للمسافرین، ۶۳۱)



نماز میں خشوع اور خضوع

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

”بیشک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں“.

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح (دل لگا کر) کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کر کہ اللہ

تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے“ [بخاری: الإیمان، باب: سوال جبریل النبی عن الإیمان: ٥٠، مسلم: ٨].

جب انسان نماز میں یہ تصور کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور تعظیم پیدا ہوگی، وہ اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا۔ نماز میں بے جا حرکات و سکنات نہیں کرے گا، بے ادبی اور بدتہذیبی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا، نماز سکون اور اطمینان کا نام ہے۔

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور جو ایسا نہ کرے اللہ کا کوئی عہد نہیں چاہے بخش دے چاہے عذاب دے“.

[أبو داود: الصلاة، باب: المحافظة على وقت الصلوات: ٤٢٥، امام ابن حبان نے صحیح کہا].

جو شخص نماز میں یہ تصور کرے کہ وہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے تو وہ پوری دلجمعی اور حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا جسم متحرک رہے، کبھی ایک پیر پر زور دے کبھی دوسرے پیر پر، کبھی داڑھی سے کھیلنا شروع کرے اور کبھی بغیر ضرورت کھلی کرتا رہے، کبھی

قیص کی سلوٹیں دور کرے اور کبھی سر کے رومال کو ہلاتا رہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

”اور اللہ کے سامنے (نماز میں) ادب سے کھڑے رہو“ [البقرة: ۲۳۸]۔

بلا ضرورت حرکت کرنا ادب اور تعظیم کے منافی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ تعلیم دی ہے کہ نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اس کی توجہ نماز سے ہٹا دے اور اس طرح اس کے حضور قلب میں فرق آئے۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے، پھر فرمایا: ”میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ، اس (چادر کی دھاریوں) نے مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا“ [بخاری: الصلاة، باب: إذا

صلی فی ثوب لہ اعلام: ۳۷۳، مسلم: المساجد، باب: کراهة الصلاة فی ثوب لہ اعلام: ۵۵۶]۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی ہیں“۔

[بخاری: الصلاة، باب: ان صلی فی ثوب مصلب أو تصاویر: ۳۷۴]۔

ان احادیث مبارکہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ نماز میں کمال حضور اور خضوع لازمی ہے اور جو چیز آدمی کو نماز میں اپنی طرف متوجہ کرے اس کو دور کر دینا چاہیے، مگر افسوس آج مسجدوں میں موبائل کی موسیقی والی آوازیں گونجتی ہیں حتیٰ کہ خانہ کعبہ بھی اس موسیقی سے محفوظ نہیں رہا اس طرح یہ لوگ اپنی اور دوسرے لوگوں کی بھی نمازوں کے خشوع اور خضوع کو خراب کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسجدوں کے محراب اور دیواروں کو آراستہ کیا جاتا ہے، ان پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، مسجد کی قالین اور جائے نماز پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، حالانکہ مساجد سادگی کا نمونہ ہونی چاہئیں تا کہ نماز میں سکون اور اطمینان ہو اور پوری توجہ کے ساتھ ایک مسلمان نماز ادا کر سکے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کو مزین کروں“۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: البتہ تم بھی مساجد کی زینت کرو گے جیسے ان کو یہود و نصاریٰ نے مزین کیا [أبو داود: الصلاة، باب: فی بناء المسجد: ۴۴۸، ابن حبان نے صحیح کہا]۔

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے“ [أبو داود: ۴۴۹، ابن خزیمہ: ۲۸۱/۳ (۱۳۲۲) نے صحیح کہا]۔

نماز پڑھتے ہوئے نگاہیں نیچی ہونی چاہئیں، یہ بات نماز میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونے کے خلاف ہے کہ نمازی نظروں کو اونچا کرے یا ادھر ادھر دیکھے۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے“ [بخاری: الأذان، باب: الالتفات فی الصلاة: ۷۵۱]۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں“۔ آپ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: ”لوگ ایسا کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی“ [بخاری: ۷۵۰]۔

نماز میں توجہ اور حضور قلب برقرار رکھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ نے نیند کی شدید طلب کی موجودگی میں نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نماز میں اونگھے اسے چاہئے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، جو کوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے یا اپنے آپ کو بد عادی رہا ہے“ [بخاری: الوضوء، باب: الوضوء من النوم: ۲۱۲، مسلم: صلاة المسافرين، باب: أمر

من نفس فی صلاته: ۷۸۶]۔

اسی طرح اگر بھوک لگی ہو اور کھانا بھی موجود ہو تو نماز میں کھانے کا خیال آ سکتا ہے، جس کی وجہ

سے دلجمعی کے ساتھ نماز ادا کرنا مشکل ہوتا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے پہلے کھانا کھانے کا حکم دیا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تمہارے سامنے
شام کا کھانا رکھا جائے اور اُدھر نماز کے لیے جماعت بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور نماز
کے لیے جلدی نہ کرو یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے کھانا لایا جاتا اور
جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ نماز کے لیے نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو
جاتے، حالانکہ وہ امام کی قراءت کی آواز بھی سن رہے ہوتے تھے“۔

[بخاری: الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة: ۶۷۳، مسلم: ۵۵۹]۔

نماز میں دلجمعی ہی کی خاطر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ پاخانہ یا پیشاب کی اگر حاجت ہو تو پہلے
اس سے فراغت حاصل کرو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جب کھانا موجود ہو یا پاخانہ
و پیشاب کی حاجت ہو تو نماز نہیں ہوتی“ [مسلم: المساجد، باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام: ۵۶۰]۔
بول و براز کے دباؤ کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں چین، خضوع اور اطمینان
حاصل نہ ہوگا اس لیے نبی رحمت ﷺ نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا۔
رسول اللہ ﷺ کی نماز میں خشیت الہی کا یوں مظاہرہ ہوتا تھا کہ ”آپ نماز پڑھتے تو آپ
کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چمکی کے چلنے کی سی آواز آتی تھی“۔

[أبو داود: الصلاة، باب: البكاء في الصلاة: ۹۰۴، نسائی: ۱۳/۳ - ۱۲۱۴]۔

ہمیں بھی نماز میں یہ تصور دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے
ہیں، ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اگر شیطان ہمیں ہماری نماز سے
غافل کرنا چاہے تو اَعُوذُ بِاللَّهِ کہہ کر بائیں جانب تین بار تھکا کر شیطان کو بھگانا چاہیے۔
عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول!

شیطان میری نماز اور میری قراءت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قراءت میں التباس پیدا کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب تجھے اس کا خیال آئے تو اَعُوذُ بِاللَّهِ کے کلمات پڑھو اور بائیں جانب تین بار تھکے کارو، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے (شیطان کو) مجھ سے دور کر دیا۔

[مسلم: السلام، باب: التعوذ من شیطان الوسوسة فی الصلاة: ۲۲۰۳].

ہمیں نماز بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بعض نمازی رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند نہیں کرتے صرف ہاتھ یا انگلیوں کو ذرا سی حرکت دینا ہی کافی سمجھتے ہیں، بعض نماز کی حالت میں کبھی آستینیں اتارتے ہیں اور کبھی اس حالت میں نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، غرض نماز میں لا ابالی اور بے ادبی کا مکمل مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی لوگ دنیوی حکمرانوں کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں بے ادبی جائز ہو سکتی ہے؟!

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن نماز پڑھانے کے بعد فرمایا: ”اے فلاں! تم اپنی نماز حسن و خوبی کے ساتھ کیوں ادا نہیں کرتے؟ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اس بات کو کیوں مد نظر نہیں رکھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ حالانکہ نمازی اپنے فائدہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کی قسم! میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں“

[مسلم: الصلاة، باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها: ۴۲۳].



اوقات نماز

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾.
 ”بیشک مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے“ (النساء: ۱۰۳).
 نماز ہجگانہ کے اوقات:

بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے نماز کے اوقات پوچھے آپ نے فرمایا: ”ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ۔“

جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا..... عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند سفید اور صاف تھا، مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا۔ عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی۔ (یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا) دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی (کر) اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا۔ اور اس (اول) وقت سے تاخیر کی جو اس کے لئے (پہلے دن) تھا۔ مغرب کی نماز شفق (سورج کی سرخی) غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھی۔ فجر کی نماز (صبح) روشن کر کے پڑھی (یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا) اور فرمایا: ”تمہاری نماز کے اوقات ان دو وقتوں کے درمیان ہیں جس کو تم نے دیکھا“ (مسلم، المساجد، باب اوقات الصلوات الخمس ۶۱۳)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور (اس وقت تک رہتا ہے) جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے۔ (یعنی عصر کے وقت تک) اور نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے۔ نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے۔ نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدمی رات تک

ہے۔ اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو“

(مسلم المساجد، باب اوقات الصلوات الخمس، ۶۱۲)

نماز فجر اندھیرے میں:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”رسول اللہ ﷺ جب نماز فجر پڑھتے تھے عورتیں (مسجد سے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ کر) اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی لوٹتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں“ (بخاری، الاذان باب انتظار الناس قیام الامام العالم، ۸۶۷، مسلم)

(المساجد، باب استحباب التکبیر بالصبح فی اول وقتها، ۶۴۵)

معلوم ہوا کہ نبی رحمت ﷺ اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے۔ لیکن اول وقت پڑھنا افضل ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی“۔

(بیہقی، ۴۳۵/۱ مستدرک حاکم، ۱/۱۹۰، اس کو حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ ہمیشہ نماز اول وقت ادا کرتے تھے۔ البتہ بعض مواقع پر (شرعی عذر کی بنا پر) نماز تاخیر سے بھی ادا کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اول وقت نماز پڑھنا افضل عمل ہے“۔

(ترمذی، الصلاة باب: ما جاء فی الوقت الأول من الفضل: ۱۷۰)

گرم اور سرد موسموں میں نماز ظہر کے اوقات:

ایک مرتبہ گرمی میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینا چاہی تو آپ نے فرمایا: ”ٹھنڈ ہو جانے دو (ٹھہر جاؤ۔) گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، گرمی کی شدت میں اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگیں“ (بخاری، مواقیب الصلاة، باب الابراء بالظہر فی السفر، ۵۳۹،

مسلم: ۶۱۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو“ (بخاری، مواقیب الصلوٰۃ، باب الابراد بالظہر فی شدة الحر، حدیث ۵۳۳، و مسلم، المساجد، باب استحباب الابراد بالظہر فی شدة الحر... حدیث ۶۱۵)

ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز کے وقت پڑھو بلکہ مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو بلکہ تھوڑی دیر کر لو۔ یہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگیں۔

نماز جمعہ کا وقت:

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ (بخاری، الجمعة، باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس، حدیث ۹۰۴)

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام (قیلولہ) کرتے۔ (بخاری، الجمعة، باب قول الله تعالى ﴿فاذا قضيت الصلوة...﴾ ۹۳۹، و مسلم، الجمعة، باب صلوة الجمعة حين نزول الشمس، ۸۵۹)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جمعہ کی نماز سردیوں میں جلد پڑھتے اور سخت گرمی میں دیر کرتے۔ (بخاری، الجمعة، باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة، حدیث ۹۰۶)

نماز عصر کا وقت:

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نماز عصر پڑھتے تھے اور آفتاب بلند (زردی کے بغیر روشن) ہوتا تھا اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے ”عوالی“ (مدینہ کی نواحی بستیاں) جاتا تو جب اس کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ بعض عوالی، مدینہ سے چار کوس کے فاصلہ پر واقع ہیں۔ (بخاری، مواقیب الصلوة، باب وقت العصر، ۵۵۰، و مسلم، المساجد، باب

استحباب التبکیر بالعصر (۶۲۱)

انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا آفتاب (کے زرد ہونے) کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ تو وہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور چار ٹھونگیں مارتا ہے اور اس میں اللہ کو نہیں یاد کرتا مگر تھوڑا“ (مسلم، المساجد، باب استحباب التبکیر بالعصر، ۶۲۲)

نماز مغرب کا وقت:

سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ (بخاری، مواقیب الصلوٰۃ، باب وقت المغرب، ۵۶۱)

نماز عشاء کا وقت:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ ﷺ کا نماز عشاء کے لئے انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی رات گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا: ”اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھاتا“ پھر مؤذن نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ (مسلم، المساجد، باب وقت العشاء و تاخیرھا، حدیث ۶۳۹)

رسول اللہ ﷺ نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے۔

(بخاری، مواقیب الصلوٰۃ، باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء حدیث ۵۶۸)

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی رحمت ﷺ عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اول وقت پڑھتے جب لوگ اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھتے اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ (مسلم، المساجد، باب استحباب التبکیر بالصبح فی اول وقتھا- ۶۴۶)

ائمہ مساجد کو نماز اول وقت پڑھانی چاہئے:

ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا کیا حال ہوگا۔ جس

وقت تجھ پر ایسے امام (حاکم) ہوں گے جو نماز میں دیر کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے؟“ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس حال میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”نماز کو اس کے وقت پر پڑھ پھر اگر تو اس نماز (کی جماعت) کو ان کے ساتھ پالے تو (ان کے ساتھ) دوبارہ نماز پڑھ لے تحقیق یہ نماز تیرے لئے نفل ہوگی“۔

(مسلم، المساجد، باب كراهة تأخير الصلوة عن وقتها المختار، ٦٤٨)

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تحقیق تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جن کو بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی۔ یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا۔ پس نماز وقت پر پڑھو (اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے)“ ایک شخص بولا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ”ہاں! اگر تم چاہو“۔ (ابو داؤد، الصلاة، باب اذا احر الامام الصلاة عن الوقت، حدیث ٤٣٣)

نماز کے ممنوعہ اوقات:

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح (کی نماز) کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج خوب ظاہر ہو جائے اور (نماز) عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج اچھی طرح غائب ہو جائے۔ (بخاری، مواقیب الصلاة، باب الصلاة المسافرين بعد الفجر حتى

ترتفع الشمس ٥٨١ مسلم، صلوة، باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ٨٢٦)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین وقتوں میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا: ”۱- جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے۔ ۲- عین دوپہر کے وقت۔ ۳- جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو جائے“ [مسلم: ٨٣١]۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سورج کے نکلنے کے وقت اور

غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھ کیوں کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے“ (بخاری: ۵۸۲، مسلم: ۸۲۸)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عصر کے بعد نماز نہ پڑھو الا یہ کہ سورج بلند ہو“ (ابوداؤد التلوع، باب من رخص فیہما اذا كانت الشمس مرتفعة، حدیث ۱۲۷۴ نسائی۔ حدیث ۵۷۳ اسے ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن حزم اور حافظ ابن حجر نے صحیح کہا)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت مطلق نہیں ہے۔ کریب مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں، آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا: ”بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ (احکام دین سیکھنے کے لئے) آئے تھے انہوں نے (یعنی ان کے ساتھ میری مصروفیت نے) مجھے ظہر کے بعد کی دو سنتوں سے باز رکھا۔ پس یہ وہ دونوں تھیں۔ (جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں)“

(بخاری: السہو، باب اذا کلم وهو یصلی فاشار بیدہ واستمع، ۱۲۳۳، و مسلم: صلاة المسافرين: ۸۳۴)

امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کی ادائیگی فجر اور عصر کی نماز کے بعد بھی جائز قرار دیتے ہیں۔

امام قدامہ رحمہ اللہ نے عصر کے بعد سنتوں کی قضا کے جواز پر یہ دلیل بھی دی ہے کہ عصر کے بعد کی ممانعت خفیف (ہلکی) ہے۔ جبکہ ابن حزم نے ۲۳ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن میں خلفاء اربعہ اور کبار صحابہ شامل ہیں) سے عصر کے بعد ۲ رکعت پڑھنا ذکر کیا ہے۔

فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ جب فجر طلوع ہوگی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کا غلام یسار بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے طلوع فجر کے بعد (نفل) نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اے یسار! ہم اس طرح (نفل) نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ

ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ ”جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو یہ بات بتادیں کہ طلوع فجر کے بعد دو رکعت (سنتوں) کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو“ (ابو داؤد: التطوع: ۱۲۷۸)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے طلوع آفتاب (کے آغاز) سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے۔ اور جس نے غروب آفتاب (کے آغاز) سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے“ اس نے فجر اور عصر کی نماز پائی“ (بخاری: مواقیب الصلاة باب من ادرك من الفجر ركعة ۵۷۹ و مسلم: المساجد باب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك تلك الصلاة: ۶۰۸)

یہ رعایت اس شخص کے لئے ہے جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ورنہ محض سستی کی بنا پر نماز کو اس قدر لیٹ کرنا سراسر منافقت ہے۔ (ع: ر)

جیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عبد مناف کے بیٹو! رات ہو یا دن جس وقت بھی کوئی شخص اس گھر کا طواف کرنا چاہے اور نماز ادا کرنا چاہے اسے مت روکو“ (ترمذی: الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف: ۸۶۸)۔

معلوم ہوا فجر اور عصر کی نماز کے بعد ممنوعہ اوقات میں بھی طواف اور اس کے بعد کی دو رکعات ادا کی جاسکتی ہیں۔

فوت شدہ نمازیں:

سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے پس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے اس نماز کو پڑھے“۔

(بخاری: مواقیب الصلاة باب من نسي صلاة فليصل اذا ذكرها ۵۹۷۔ مسلم: المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها۔ حدیث ۶۸۴)

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جمہور علماء صبح کی اور عصر کی نماز کے بعد فوت شدہ

فرض نماز کی ادائیگی جائز سمجھتے ہیں اور فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع سمجھتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینا چاہئے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔

قضائے عمر والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لہذا یہ بدعت ہے۔

ابوقنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سفر میں فرمایا: ”آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں“ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور (کچھ دیر بعد) بلال رضی اللہ عنہ بھی غافل ہو کر سو رہے۔ جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ بھی جاگے۔ آپ نے فرمایا: ”اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے“ پھر (نئی جگہ پہنچ کر) رسول اللہ ﷺ نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ نبی رحمت ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں باقی لوگوں نے بھی دو سنتیں پڑھیں پھر رسول اللہ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا: ”جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے“ (بخاری، مواقیب الصلاة، باب

الاذان بعد ذهاب الوقت، ۵۹۵ و مسلم، المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ۶۸۰)۔

تاریخ کرام! اصل حقیقت آپ نے جان لی کہ سورج طلوع ہو چکا تھا تب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی مگر قولوں نے ایک اور ہی قصہ گھڑ لیا:

بلال نے جب تک اذان فجر نہ دی قدرت خدا کی دیکھئے نہ مطلق سحر ہوئی

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ قصہ من گھڑت ہے۔

(نوٹ) صبح کی سنتیں پڑھنے کا ذکر صحیح مسلم میں ہے۔

نبی رحمت ﷺ کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے۔ لہذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ ایسے شخص کو صرف توبہ و استغفار اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

جہاں دن یا رات بہت طویل ہو وہاں نماز کے اوقات:

نواس بن سماعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”دجال چالیس دن زمین پر رہے گا اس کا ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن مہینہ کے برابر ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے“ صحابہ رضی اللہ عنہم عین نے عرض کیا کہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا اس دن ایک دن کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ تم اندازے سے نمازیں ادا کرنا“ (مسلم: الفتن، باب: ذکر الدجال وصفته: ۲۹۳۷)۔

معلوم ہوا کہ جن مقامات پر لمبی مدت تک کبھی لگاتار دن اور کبھی لگاتار رات ہی رہتی ہے نیز ۲۴ گھنٹے میں وہاں زوال اور غروب کا کوئی نظام نہ ہو انہیں پانچ وقت کی نمازیں اندازہ سے ادا کرنا ہوں گی۔

نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں؟

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے دن عمر رضی اللہ عنہ غروب آفتاب کے بعد قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے نماز عصر ادا نہیں کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”واللہ میں نے بھی نماز عصر ادا نہیں کی“ پھر ہم سب مقام بطنان میں آئے، ہم نے وضو کیا اور غروب آفتاب کے بعد پہلے نماز عصر پڑھی پھر نماز مغرب ادا کی۔ (بخاری، مواقیب الصلاة، باب: من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت: ۵۹۶، مسلم: ۶۳۱)۔

معلوم ہوا کہ نمازوں کی ترتیب قائم رکھنی چاہیے۔

نمازی کا لباس

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں“ (بخاری، الصلاة، باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ۳۵۹، مسلم، الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد و صفة لیسہ، حدیث ۵۱۶)

معلوم ہوا کہ جو لوگ احرام کی حالت میں حج یا عمرہ کے موقع پر کندھے کھول کر فرض نماز ادا کرتے ہیں جبکہ وہ کندھوں کو ڈھانکنے پر قادر بھی ہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد کے لیے نماز کے دوران سر ڈھانپنا واجب نہیں وگرنہ آپ کندھوں کے ساتھ سر کا ذکر بھی فرماتے، سر ڈھانپنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے لوگوں کو اس کی ترغیب تو دی جاسکتی ہے مگر نہ ڈھانپنے پر ملامت نہیں کرنی چاہئے۔ (ع، ر)

رسول اللہ ﷺ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی کپڑا ہو اور وہ کشادہ ہو تو اتخاف کرو یعنی جسم پر لپیٹ کر کندھے ڈھکوا اور اگر تنگ ہو تو صرف تہہ بند بناؤ“۔ (بخاری: ۳۶۱، مسلم: ۳۰۱۰، ۵۱۸)۔

جرہد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ میرے پاس سے گزرے اور میری ران نکلی تھی آپ ﷺ نے فرمایا: ”ران کو ڈھکو بیشک ران شرم گاہ ہے“۔

[ترمذی الأدب، باب: ما جاء أن الفخذ عورة: ۲۷۹۵]۔

عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا (آپ نے) اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ (بخاری، الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقا به ۳۵۴، مسلم، الصلاة،

باب الصلوة في ثوب واحد و صفة لیسہ ۵۱۷)

سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ (بخاری، الصلاة، باب اذا كان الثوب ضيقاً۔ ۳۶۲، مسلم: ۴۴۱)

محمد بن المنكدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر (ایک طرف) رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا؟ اے ابو عبد اللہ! آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟۔ تو انہوں نے فرمایا: ہاں، میں نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا تو میں نے یہ چاہا کہ (ایسا ہی کروں تاکہ) تمہارے جیسے جاہل مجھے (اس طرح نماز پڑھتے ہوئے) دیکھ لیں۔

(بخاری، الصلاة، باب الصلاة بغير رداء، حدیث ۳۷۰، مسلم: الزهد، باب: حدیث جابر طویل: ۳۰۰۸)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟“ پھر اس شخص نے (مسلمانوں کی غربت کے زمانے کے خاتمے کے بعد) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: جب اللہ نے تمہیں وسعت دی تو تم بھی وسعت کرو (یعنی نماز میں ایک سے زیادہ کپڑے پہنو)۔ (بخاری: ۳۶۵، مسلم: ۵۱۵)۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عورتیں نماز فجزا کرتیں تو وہ اپنی چادروں میں لپیٹی ہوا کرتی تھیں۔ (بخاری، الصلاة، باب فی کم تصلى المرأة فی الثياب؟ ۳۷۲، مسلم، المساجد، باب استحباب التبکیر بالصبح فی اول وقتها، ۶۴۵)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر

قبول نہیں ہوتی“ (ابو داؤد: الصلاة، باب المرأة تصلی بغیر حمار، ۶۴۱- اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے صحیح کہا)
معلوم ہوا کہ عورت سر اپا پردہ ہے اگر وہ پنڈلی، بازو یا سر کھول کر نماز پڑھے گی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جو تا پہن رکھا ہوتا تھا۔ (ابو داؤد: الصلاة، باب: الصلاة فی النعل: ۶۵۳، وابن ماجہ: إقامة الصلوة، باب: الصلاة فی النعل: ۱۰۳۸، طحاوی نے اسے متواتر کہا)

اس وقت مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے اور جوتوں کے تلوے بھی ہموار ہوتے تھے جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے آج مسجدوں میں صفیں، دریاں یا قالین بچھ گئے ہیں۔ اور جوتوں کے تلووں میں بسا اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی لہذا آج اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے طہارت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے ورنہ جوتے اتار کر نماز پڑھے (ع، ر)
نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”یہودیوں کی مخالفت کرو وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے“ (ابو داؤد: ۶۵۲، اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جماعت کروا رہے تھے کہ آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا اور بائیں جانب رکھ دیا، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بیٹیک میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہے؛ لہذا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح (غور سے) دیکھ لو اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو پھر ان میں نماز ادا کرو“۔

(ابو داؤد: الصلاة، باب الصلاة فی النعل، ۶۵۰ اسے حاکم ذہبی اور نووی نے صحیح کہا)

معلوم ہوا کہ جس نے نادانستہ طور پر جسم یا کپڑوں کی نجاست کے ساتھ نماز ادا کر لی اور اسے

اس کا علم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہوا تو اس کی نماز صحیح ہے۔
 نبی رحمت ﷺ فرماتے ہیں۔ ”جب تم نماز ادا کرو تو جو تلوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ
 قدموں کے درمیان رکھو۔ کیونکہ تمہارا بائیں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں اگر بائیں جانب
 کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو“۔

(ابوداؤد الصلاة، باب المصلی اذا خلع نعلیه ابن یضعها، ۶۵۴، ۶۵۵۔ اسے حاکم، زہبی اور نووی نے صحیح کہا)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ
 کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے اور ان کے جوڑے کو کھول دیا۔ جب ابن
 حارث نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے: میرے سر سے
 تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا
 ہے: ”بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو مشک میں بندھی ہوئے حالت

میں نماز ادا کرے“ (مسلم، الصلاة، باب اعضاء السجود والنہی عن کف الشعر ۴۹۲)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا
 حکم دیا گیا اور بال اور کپڑے کے سمیٹنے سے منع کیا گیا۔

(مسلم، الصلوٰۃ، باب اعضاء السجود و النہی عن کف الشعر والثوب: ۴۹۰)



کوئی (سچا) معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ۔ نماز کی طرف آؤ۔ نجات کی طرف آؤ۔ نجات کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر جب تکبیر کہنی ہو تو یوں کہو:

”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“.

میں صبح کو نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور اپنا خواب سنایا، آپ نے فرمایا: ”تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کو بتلاؤ جو تم نے دیکھا وہ بلند آواز والا ہے“۔ جب بلال نے اذان دی تو عمر رضی اللہ عنہما جلدی سے مسجد آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے بھی خواب میں اس کی مانند دیکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی تعریف کی۔

(ابو داؤد 'الصلاة' باب كيف الاذان' ٤٩٩ - ابن ماجه 'الاذان' باب بدء الاذان ٧٠٦ سے امام ابن حبان حدیث ٢٨٤ ترمذی اور نووی نے صحیح کہا)۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اذان کے کلمات دو دو بار اور تکبیر کے کلمات ایک ایک بار تھے سوائے اس کے کہ مؤذن ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ دو بار کہتا تھا۔ (ابو داؤد 'الصلاة' باب في الاقامة' ٥١٠ '٥١١ نسائی ٦٦٨ - دارمی ٢٧٠/١ حاکم ١٩٧/١ '١٩٨ ذہبی اور نووی نے اسے صحیح کہا)

دوہری اذان اور دوہری اقامت:

اذان میں شہادت کے چاروں کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا اور پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیح کہلاتا ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بذات خود مجھے

فجر کی اذان میں اضافہ:

ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اذان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ: ”فجر کی اذان میں ”حَسَى عَلَى الْفَلَاحِ“ کے بعد دوبارہ یہ کلمات زیادہ کہیں: ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ نماز نیند سے بہتر ہے۔“

(ابو داؤد، الصلوة، باب كيف الاذان، ۵۰۱۔ نسائی ۶۳۳ سے ابن خزیمہ، ابن حبان اور نووی نے صحیح کہا)
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں ”حَسَى عَلَى الْفَلَاحِ“ کے بعد (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) دودفعہ کہنا سنت ہے۔ (ابن خزیمہ حدیث ۳۸۶ بیہقی ۴۲۳/۱ سے ابن خزیمہ نے صحیح کہا)
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فجر کی پہلی اذان میں ”الصلاة خیر من النوم“ دودفعہ کہا جائے۔ (بیہقی ۴۲۳/۱ سے ابن حجر نے حسن کہا)

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ (حَسَى عَلَى الصَّلَاةِ) کی بجائے ”الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ“ یا ”صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ“ ”اپنے گھروں میں نماز ادا کرو“ کہو اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا، جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں (مسجد) چلو۔ (بخاری، الاذان، باب هل يصلح الامام بمن حضر؟ ۶۶۸ و مسلم، صلاة المسافرين، باب الصلوة في الرحال في المطر، ۶۹۹)

اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمات میں ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کہنا یا ”الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ“ کہنا اذان میں اضافہ نہیں ہے بلکہ عہد نبوت کی سنت ہے۔ لہذا اسے اذان کے اندر من پسند اضافوں کی دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ (ع، ر)

اذان کے فضائل:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم بھیڑ بکریوں میں ہو یا دیہات میں تو نماز کے لیے اذان دو اور اپنی آواز بلند کرو کیونکہ مؤذن کی آواز کو جنات

انسان اور جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے گی۔

(بخاری 'الاذان' باب رفع الصوت بالنداء، ۶۰۹)۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مؤذن کے لئے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے (اذان سن کر) نماز پڑھی“ (نسائی ۲/۱۳، ۶۴۶، الأذان، باب: رفع الصوت بالأذان، اسے منذری نے جید کہا) مفہوم یہ ہوا کہ مؤذن کی آواز سن کر جتنے آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے۔ ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا ثواب تو ملے گا ہی مگر مؤذن تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر پائے گا۔ کیونکہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلا یا تھا۔

معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: ”قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی (یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے)

(مسلم 'الصلاة' باب فضل الاذان - ۳۸۷)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ فلاں فلاں بات یاد کر یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی“۔

(بخاری 'الاذان' باب فضل التاذین، ۶۰۸ - مسلم 'الصلاة' باب فضل الاذان و حرب الشيطان عند سماعه ۳۸۹)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے پر تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لئے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا“۔

(ابو داؤد 'صلاة السفر' باب الاذان في السفر، ۱۲۰۳ - اسے ابن حبان نے صحیح کہا)

اذان کا جواب:

عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مؤذن کہے ”اللہُ اکْبَرُ“ پس تم بھی کہو ”اللہُ اکْبَرُ“ پھر جب مؤذن کہے ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تم بھی کہو ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پھر جب مؤذن کہے ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ تم بھی کہو ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ پھر جب مؤذن کہے ”حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ“ تو تم کہو ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ پھر جب مؤذن کہے ”حَسْبِيَ عَلَى الْفَلَاحِ“ تو تم کہو ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ پھر جب مؤذن کہے۔ ”اللہُ اکْبَرُ“ تو تم کہو ”اللہُ اکْبَرُ“ پھر جب مؤذن کہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تو تم کہو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“۔ جو شخص اپنے صدق دل سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا تو (جواب کی برکت سے) بہشت میں داخل ہو جائے گا۔

(مسلم، الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ۳۸۵)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کے جواب میں ”صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ“ کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں۔ لہذا فجر کی اذان میں ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہنا چاہیے یعنی ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“۔

تکبیر کے دوران یا بعد میں ”أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا“ کہنے والی ابوداؤد کی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ (المجموع) اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا ہے۔

اذان کے بعد کی دعائیں:

(۱) عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم مؤذن (کی آواز) سنو تو تم مؤذن کو جواب دو اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو پس جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے“۔

(مسلم، الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن۔۔۔ ۳۸۴)

پس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہئے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار درود شریف پڑھیں۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“.

یا الہی رحمت بھیج محمد ﷺ اور آل محمد پر جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بیشک تو تعریف کیا گیا، بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت بھیج محمد اور آل محمد پر جیسے برکت بھیجی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو تعریف کیا گیا، بزرگی والا ہے۔

(بخاری: أحادیث الانبیاء: ۳۳۷۰، مسلم: ۴۰۶)

(۲) جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص (اذان کا جواب دے اور پھر) اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے:

”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ“.

”اس پوری پکار (اذان) کے اور (قیامت تک) قائم رہنے والی نماز کے رب! محمد ﷺ کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے“.

(بخاری: الاذان، باب الدعاء عند النداء، ۶۱۴)

وسیلہ کی تشریح:

وسیلہ کے متعلق خود رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”تحقیق وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو صرف ایک بندے کے لائق ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پس جس نے

(اذان کی دعا پڑھ کر) اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے (میری) شفاعت واجب ہوگئی، (مسلم، الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المودن ۳۸۴)

نبی رحمت ﷺ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت میں ایک بلند وبالادرجے کا نام ہے۔

دعائے اذان میں اضافہ:

مسنون دعائے اذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں۔ دعائے مسنون کے جملہ (وَالْفَضِيلَةَ) کے بعد (وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ) کی زیادتی کرتے ہیں اور آگے (وَعَدَّتْهُ) کے خالص دودھ میں (وَارزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) کا پانی ملا رکھا ہے اور پھر اخیر میں مسنون دعا کے اندر (يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ) کی آمیزش ہے افسوس! کیا نبی ﷺ کی فرمودہ دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کی ہے؟ مسلمانوں کو رسول اللہ ﷺ کے فرمان پاک میں کمی یا بیشی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہئے۔ نبی اکرم ﷺ نے رات کو با وضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لئے ایک دعائے بتائی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو (بِنَبِيِّكَ) کی جگہ (بِرَسُولِكَ) یعنی نبی کی جگہ رسول کہا۔ تو نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ (بِنَبِيِّكَ) ہی کہو۔

(بخاری، الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء ۲۴۷، و مسلم، الذكر والدعاء، باب الدعاء عند

النوم، ۲۷۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مسنون دعائیں اور رد تو قینی (اللہ کی طرف سے) ہیں اور ان کی حیثیت عبادت کی ہے لہذا ان میں کمی بیشی جائز نہیں لہذا (کسی قرینہ یا دلیل کے بغیر) متکلم کے صیغے کو جمع کے صیغے سے بدلنا درست نہیں ہے اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ متکلم کا صیغہ ہی بولا جائے البتہ نیت میں یہ رکھا جائے کہ میں یہی دعا فلاں فلاں کے حق میں بھی کر رہا ہوں۔ نیز مسنون دعاؤں اور اورد کے ہوتے ہوئے خود ساختہ عربی دعاؤں

وظیفوں اور درودوں کا التزام کرنا درست نہیں ہے اور اگر ان کے کچھ الفاظ شرک، کفر یا بدعت پر مشتمل ہوں تو اس صورت میں ان کا پڑھنا قطعی طور پر حرام ہو جاتا ہے لیکن افسوس کہ جاہل لوگ روزانہ علی الصبح پابندی کے ساتھ درود تاج، درود لکھی اور درود ہزاری وغیرہ کی ”تلاوت“ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین (ع ر)

(۳) سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مؤذن (کی اذان) سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دئے جائیں گے۔ دعایہ ہے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا“.

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحقیق محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں“.

(مسلم، الصلاة باب استحباب القول مثل قول المودن۔۔۔ حدیث ۳۸۶)

اذان اور اقامت کے مسائل:

☆ ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ اور تم میں سے بڑا امامت کرائے“ (بخاری، الاذان)

باب من قال: ليؤذن في السفر مودن واحد، ۶۲۸، مسلم، المساجد، باب من احق بالامامة، ۶۷۴)

☆ بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔

(بخاری، تعليقا، الاذان، باب هل يتبع المودن فاه ههنا وههنا، ترمذی، الصلاة، باب ماجاء في ادخال

الاصبع في الاذن عند الاذان، ۱۹۷)

☆ بلال رضی اللہ عنہ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ كَهْتَهُ هُوَ مِنْ دَائِمٍ جَانِبٍ پھیرتے تھے اور حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ كَهْتَهُ وَتَمَّ بِأَيْمِنِ طَرَفٍ۔ (بخاری، الاذان، باب هل يتبع المودن فاه ههنا وههنا

۶۳۴ و مسلم، الصلاة باب سترة المصلي، ۵۰۳)

☆ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا: ”مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی اذان پر مزدوری نہ لے“۔

(ابو داؤد، الصلاة، باب اخذ الاجر علی التاذین، ۵۳۱۔ ترمذی، الصلاة، باب ماجاء فی کراهية ان ياخذ

المؤذن علی الاذان اجرا ۲۰۹۔ اسے حاکم ۱/ ۱۹۹، ۲۰۱ اور ذہبی نے صحیح کہا)

☆ مؤذن وہ مقرر کرنا چاہئے جو بلند آواز والا ہو۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا: ”بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہے“۔

(ابو داؤد: ۴۹۹، ترمذی: ۱۸۹)۔

☆ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا اور بلال اس (مکان) پر (کھڑے ہو کر) فجر کی اذان دیتے تھے۔

(ابو داؤد، الصلاة، باب الاذان فوق المنارة، ۵۱۹، ابن حجر نے حسن کہا)

☆ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو فرمایا: ”جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو (دعا) مانگ! تو دیا جائے گا۔“

(ابو داؤد، الصلاة، باب مايقول اذا سمع المؤذن، ۵۲۴، اسے امام ابن حبان: ۲۹۵ نے صحیح کہا)

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا نہیں فرماتا“۔

(ابو داؤد: الصلاة، باب: ما جاء فی الدعاء بين الأذان والإقامة: ۵۲۱، ترمذی: ۳۱۴، ابن حجر نے حسن کہا)

☆ بیماریوں اور وباء کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں۔ کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔

☆ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہیں

کہنے چاہئیں۔

☆ اقامت، اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہئے کیونکہ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ ”اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز ہے۔ آپ نے تین بار یہ کلمات کہے پھر فرمایا: جس کا دل چاہے (نماز پڑھے)“ (بخاری الاذان، باب کم بین الاذان والاقامة و من ينتظر الاقامة؟ حدیث ۶۲۴ و مسلم، صلوة المسافرین، باب بین کل اذانین صلاة، حدیث ۸۳۸)

☆ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے بھی ایک اذان ہے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے اور سونے والا خبردار ہو جائے۔“ (بخاری الاذان، باب الاذان قبل الفجر، ۶۲۱ و مسلم، الصیام، باب: بیان ان الدخول فی الصوم يحصل بطلوع الفجر ۱۰۹۳)

اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: دونوں موذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا۔ (مسلم، ۱۰۹۲)

☆ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی“ (مسلم، صلوة المسافرین، باب کراهية الشروع فی نافلة بعد شروع المودن، ۷۱۰)

اگر کوئی جماعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سنتیں پڑھے گا تو پھر ”نیکی برباد گناہ لازم“ والا محاورہ پورا ہو جائے گا۔ لہذا نمازیوں کو چاہئے کہ اگر وہ تشہد کے قریب نہ پہنچے ہوئے ہوں تو فوراً سنتیں توڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں ہاں اگر کوئی شخص یہی نماز اس سے پہلے جماعت کے ساتھ ادا کر چکا ہو تو پھر وہ سنتیں جاری رکھ سکتا ہے واللہ اعلم۔

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ جو نماز تم (امام کے ساتھ) پالو وہ پڑھ لو اور جو

☆ رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو (بخاری، الاذان، باب لا یسعی إلی الصلاة ۶۳۶، و مسلم: ۶۰۲)

☆ ایک شخص اذان سن کر مسجد سے نکلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کی۔ (مسلم، المساجد، باب النهی عن الخروج من المسجد اذا اذن المودن ۶۵۵)

☆ شرعی عذریا نماز کی تیاری کے سلسلہ میں باہر جانا پڑے تو جائز ہے۔

☆ نبی اکرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو نماز کا ارادہ کرے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔“

(مسلم، المساجد، باب استحباب اتیان الصلاة بوقار و سکينة ۶۰۲)

یعنی اگر وہ بلا وجہ سستی سے کام نہ لے تو جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا، اسے نماز کا ثواب مسلسل مل رہا ہوتا ہے، واللہ اعلم (ع، ر)

☆ حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا: کیا نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد امام باتیں کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اقامت ہو جانے کے بعد نبی رحمت رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتا رہا۔ (بخاری، الاذان، باب الکلام اذا اقيمت الصلاة ۶۴۳، و مسلم: ۳۷۶)

☆ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی۔ لوگوں نے صفیں برابر کر لیں، اتنے میں رسول اللہ رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں آپ نے لوگوں سے کہا۔ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر آپ نے (گھر جا کر) غسل فرمایا: اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی۔

(بخاری، الاذان، باب اذا قال الامام مکانکم ۶۴۰، و مسلم: المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة ۶۰۵)

بھول جانا انسانی کمزوری ہے آپ رضی اللہ عنہ بشر تھے اسی لیے بھول گئے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ بھولنا شان رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ [ع، ر]



احکام قبلہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: ۱۴۴)۔
 ”اپنا چہرہ (نماز کے لیے) مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔“

جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو رسول اللہ ﷺ سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ (بخاری، تقصیر الصلاة، باب ينزل للمكتوبة ۱۰۹۹)۔
 قبلہ کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: مشرق اور مغرب کے درمیان (جنوب کی طرف) تمام سمت قبلہ ہے۔

(ترمذی، الصلوة، باب ما جاء ان بين المشرق والمغرب قبلة ۳۴۲، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا)
 مدینہ سے کعبہ جنوب کی طرف ہے اس لئے آپ نے مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ کا تعین فرمایا ہمارے لئے پاکستان اور ہندوستان میں شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے۔ تاکہ امت تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ البتہ قبلہ کی سمت کا یقینی علم ہو جانے کے بعد قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔

”نبی رحمت ﷺ دوران سفر فرضوں کے علاوہ رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے جس طرف سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی آپ کا منہ ہوتا تھا۔ اور سواری پر ہی وتر پڑھتے تھے“ (بخاری، الوتر، باب الوتر فی السفر، ۱۰۰۰، ومسلم، صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة فی السفر حيث توجهت، ۷۰۰)۔

اور کبھی نبی رحمت ﷺ کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرمادیتے اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا۔ (ابو داؤد، صلیوة السفر، باب التطوع علی

الراحلة والوتر ۱۲۲۵۔۔ اسے ابن سکن نے صحیح اور منذری نے حسن کہا)

اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے البتہ سجدہ کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے۔

(ترمذی، الصلاة، باب ماجاء فی الصلوة علی الدابة حیث ما توجهت به ۳۵۱۔ اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا)

قبلہ کی جانب قبر ہونے کی صورت میں وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو“۔

(مسلم، الجنائز، باب النهی عن الجلوس علی القبر والصلوة علیہ۔ ۹۷۲)

اگر کوئی نمازی غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور اسے کوئی نماز کی حالت میں صحیح قبلہ کی اطلاع دے تو اسے نماز ہی میں اپنا رخ بدل لینا چاہیے۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف سولہ یا سترہ مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے (کعبہ کی طرف منہ کر کے) نماز پڑھی پھر اس نے انصار کے کچھ لوگوں کو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ سن کر وہ لوگ (نماز ہی میں) کعبہ کی طرف گھوم گئے“ (بخاری: ۳۹۹)۔



سترہ کا بیان

یہاں سترہ سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترہ کے آگے سے گزر جائے اور گناہ گار نہ ہو۔ یہ سترہ لٹھی، برچی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت سے ہوتا ہے اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر (کوئی چیز) رکھ لے تو نماز جاری رکھے اور جو کوئی سترے کے پیچھے سے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے“ (مسلم، الصلاة، باب سترہ المصلیٰ ۴۹۹)

عطاء فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی ایک ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ (لمبی) ہوتی ہے۔ (ابوداؤد، الصلاة، باب ما یستر المصلیٰ، ۶۸۶، ۱ سے ابن خزیمہ (۸۰۷) نے صحیح کہا۔)

معلوم ہوا کہ کم از کم ایک ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترہ بن سکتی ہے۔

ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نبی رحمت ﷺ کے سامنے ایک برچی نصب تھی۔ آپ نے دو رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعت عصر کی۔ اس وقت برچی کی دوسری طرف عورتیں اور گدھے چلے جا رہے تھے۔

(بخاری، الصلاة، باب سترۃ الإمام سترۃ من خلفہ، ۴۹۵، ۵، مسلم، الصلاة، باب سترۃ المصلیٰ ۵۰۳)

نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے چالیس تک وہیں کھڑے رہنا پسند ہو۔ ابو انصر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ بسر بن سعید نے چالیس دن کہے یا چالیس مہینے یا چالیس سال“۔

(بخاری، الصلاة، باب اثم المار بین یدی المصلیٰ، ۵۱۰، ۱۔ مسلم، الصلاة، باب منع المارین یدی المصلیٰ، ۵۰۷)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو اور اگر کوئی شخص سترہ کے اندر (یعنی نمازی اور سترہ کے درمیان) سے گزرنا چاہے تو اس کی مزاحمت کرو اور اس کو آگے سے نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو۔ بے شک وہ شیطان ہے۔“

(بخاری، الصلاة، باب یرد المصلی من مرین یدیہ، ۵۰۹ و مسلم: ۵۰۵)

ایک روایت میں ہے کہ دو بار تو اس کو ہاتھ سے روکا اگر وہ نہ رکے تو اس سے ہاتھ پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے (کیونکہ وہ شیطان ہے)۔ (ابن خزیمہ، ۸۱۸ اور انہوں نے اسے صحیح کہا) نبی رحمت ﷺ سترہ اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اپنا بطن مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترہ کے پیچھے سے گزرنا پڑا۔ (ابن خزیمہ، ۸۲۷، حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ (بخاری، الصلاة، باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترۃ، ۴۹۶، مسلم: ۵۰۸) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی کچھلی لکڑی لگتا لہبا سترہ نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور سیاہ کتا شیطان ہے۔“ (مسلم، الصلاة، باب قدر ما یستر المصلی، ۵۱۰)

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے آگے سوتی تھی۔ میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

(بخاری، الصلاة، باب التطوع خلف المرأة، ۵۱۳، مسلم، الصلاة، باب الاعتراض بین یدی المصلی، ۵۱۲)

معلوم ہوا کہ گزرنا تو منع ہے۔ لیکن اگر آگے کوئی لیٹا ہو تو کوئی حرج نہیں۔

نماز نبوی: تکبیر اولیٰ سے سلام تک

گیارہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت:

ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے دس صحابہ (کی جماعت) میں کہا کہ میں تم (سب) سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا پھر (ہمارے روبرو رسول اللہ ﷺ کی نماز) بیان کرو۔ ابو حمید نے کہا: جب رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوتے (تو) اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر تکبیر (تحریمہ) کہتے پھر قرآن پڑھتے پھر (رکوع کے لئے) تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے پھر (رکوع کے دوران) کمر سیدھی کرتے پس نہ اپنا سر جھکاتے اور نہ بلند کرتے۔ (یعنی پیٹھ اور سر ہموار رکھتے۔) اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے پس کہتے (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے اور (قومہ میں اطمینان سے) سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر (اللہ اکبر) کہتے پھر زمین کی طرف سجدے کے لئے جھکتے پس اپنے دونوں ہاتھ (بازو) اپنے دونوں پہلوؤں (رانوں اور زمین) سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے (اس طرح کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے) پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بائیں پاؤں موڑتے (یعنی بچھا لیتے) پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی (یعنی بڑے اطمینان سے جلسہ میں بیٹھتے) پھر (دوسرا) سجدہ کرتے پھر (اللہ اکبر) کہتے اور اٹھتے اور اپنا بائیں پاؤں موڑتے۔ پھر اس پر بیٹھتے اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی (یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے) پھر (دوسری رکعت کے لیے) کھڑے ہوتے پھر اسی طرح دوسری

رکعت میں کرتے۔ پھر جب دو رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو (اللہ اکبر کہتے) اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت کیا تھا۔ پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے (یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشهد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں) اپنا بائیں پاؤں (دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر) نکالتے اور بائیں جانب کو لمبے پر بیٹھتے پھر سلام پھیرتے۔ (یہ سن کر) ان صحابہ نے کہا۔ (اے ابو حمید ساعدی) تم نے سچ کہا رسول اللہ ﷺ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے“ (ابوداؤد الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ۷۳۰، ترمذی الصلاة، باب ماجاء فی وصف الصلاة، ۳۰۴۔ اسے ابن حبان، ترمذی اور نووی نے صحیح کہا)

اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی وفات تک رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ (ع، ر)

نماز کی نیت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”معملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے“ (بخاری، بدء الوحي، باب کیف كان بدء الوحي الى رسول الله ﷺ، ۱، و مسلم، الامارة، باب قوله ﷺ انما الاعمال بالنية: ۱۹۰۷)

اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام (جائز) اعمال میں (سب سے پہلے) پر خلوص نیت کر لیا کریں کیونکہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک شہید اللہ کے سامنے قیامت کو لایا جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا ”تو جھوٹا ہے بلکہ تو اس لئے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے،“ پس تحقیق کہا گیا (یعنی تیری نیت دنیا میں پوری ہوگئی۔ اب مجھ سے کیا چاہتا ہے) پھر منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شہرت کی غرض سے سخاوت کرنے والے مالدار اور ایک عالم کا بھی یہی حشر ہوگا“ (مسلم، الامارة، باب من

قاتل للرياء والسمعة استحق النار' (۱۹۰۵)

وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور (نماز میں) حاضر ہونے کے لئے طہارت (وضو) کرنے لگا ہوں اور پھر جب نماز پڑھے لگیں تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں کہ صرف اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے اس کا حکم، بجالاتا ہوں۔

نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے اس لئے زبان سے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ ﷺ کی سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔

اپنے دل میں کسی کام کی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا ایک جائز بات ہے مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا عقل، نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔

☆ عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے مثلاً جوتا پہننے لگتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے ”جوتا پہننے لگا ہوں“ وغیرہ۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہو گیا ہے؟ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا نماز شروع کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں بدعت ہے۔

☆ نقل کے خلاف اس لئے ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اگر وہ اپنی نمازوں سے پہلے ”نیت“ پڑھنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن ان میں سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے مروجہ نیت نہیں پڑھی اس کے برعکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا آغاز تکبیر تحریمہ (اللہ اکبر) سے کرتے رہے ثابت ہوا کہ نماز سے پہلے نیت نہ پڑھنا سنت ہے۔

☆ لغت کے اس لئے خلاف ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کا معنی ”ارادہ“ ہے اور ارادہ دل سے کیا جاتا ہے زبان سے نہیں؛ بالکل اسی طرح جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے پاؤں سے نہیں۔

دوسرے لفظوں میں نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔

(نوٹ): بعض لوگ روزہ رکھنے کی دعائے حج کے تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی مروجہ نیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عرض یہ ہے کہ ”روزہ رکھنے والی دعا والی حدیث ضعیف ہے لہذا حجت نہیں ہے۔ حج کا تلبیہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ نبی اکرم ﷺ کی پیروی میں کہنا ضروری ہے مگر نماز والی مروجہ نیت کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی، رہ گیا نکاح میں ایجاب و قبول کا مسئلہ چونکہ نکاح کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے اور حقوق العباد میں محض نیت سے نہیں بلکہ اقرار، تحریر اور گواہی سے معاملات طے پاتے ہیں جب کہ نماز میں تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے جو تمام نیتوں کو خوب جاننے والا ہے پھر وہاں نیت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے لہذا اہل اسلام سے گزارش ہے کہ اس بدعت سے نجات پائیں اور سنت کے مطابق نماز کا آغاز کریں (ع، ر)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں۔ رسول اللہ ﷺ آپ کے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے الفاظ سے نیت کی۔ عبادات میں مثلاً وضو، غسل، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے۔ (الفتاویٰ الکبریٰ)۔ امام ابن ہمام اور ابن قیم بھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔

قیام:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرہ: ۲۳۸)۔

”اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہوا کرو“۔

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے بوا سیر کی تکلیف تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”(ممکن ہو تو) کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت

نہ ہو تو لیٹ کر (نماز ادا کرو)“ (بخاری، تقصیر الصلاة، باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، ۱۱۱۷)

معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود بیٹھ کر فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں۔
البتہ نفل نماز میں قیام کی قدرت ہونے کے باوجود بیٹھنا جائز ہے اگرچہ اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر پڑھے اسکو کھڑے ہونے والے کا آدھا ثواب ملے گا اور جو لیٹ کر پڑھے اس کو بیٹھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا“۔ (بخاری، تفصیر الصلوة باب صلوة القاعد بالایمان: ۱۱۱۶)۔

جب نبی رحمت ﷺ کی عمر زیادہ ہوگئی تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کرایا جس پر آپ (نماز کے دوران) ٹیک لگاتے تھے۔ (ابو داؤد الصلاة: باب الرجل يعتمد فی الصلاة علی عصا ۹۴۸ حاکم اور ذہبی نے اس کو صحیح کہا)۔ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے ستون کے سہارے کھڑے ہونے کو ترجیح دی، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عذر ہو تو کسی چیز کا سہارا لے کر قیام کیا جاسکتا ہے خواہ فرض نماز ہو یا نفل واللہ اعلم۔ (محمد عبد الجبار)

نبی اکرم ﷺ رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر۔ جب قراءت کھڑے ہو کر فرماتے تو (اسی حالت) قیام سے رکوع کی حالت میں منتقل ہوتے اور جب بیٹھ کر قراءت فرماتے تو اسی حالت میں رکوع اور سجود بھی فرماتے۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما و قاعدا، ۷۳۰)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کی عمر زیادہ ہوگئی تو آپ ﷺ بیٹھ کر قراءت فرماتے۔ جب قراءت سے تمیں یا چالیس آیات باقی ہوتیں تو آپ ﷺ کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے پھر رکوع میں چلے جاتے دوسری رکعت میں بھی آپ ﷺ کا یہی معمول ہوتا۔ (بخاری، تفصیر الصلاة باب اذا صلی

قاعدا ثم صبح او وجد خفة تمم ما بقی، ۱۱۱۹ و مسلم، صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما و قاعدا، ۷۳۱)

تکبیر اولیٰ:

(۱) (قبلہ کی جانب منہ کر کے) اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں۔ یعنی دونوں ہاتھوں کو (کندھوں تک) اٹھائیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”میں نے نبی رحمت ﷺ کو دیکھا آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ رکوع کی تکبیر کے وقت بھی ایسا ہی کیا اور جب ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہا تو بھی ایسا ہی کیا اور فرمایا: ”رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ“ اور سجدہ میں جاتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت ایسا نہ کیا۔“

(بخاری 'الاذان' باب الی ابن یرفع یدیه؟ ۷۳۸، مسلم: ۳۹۰)

اسے تکبیر اولیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر ہے اور اس سے نماز شروع ہوتی ہے اور اسے تکبیر تحریرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں نمازی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ (ع ر)

(۲) مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”بیشک نبی اکرم ﷺ جب تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے، جب رکوع کرتے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی ایسا ہی کرتے“ (مسلم: الصلوٰۃ، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین ۳۹۱)۔

شیخ البانی فرماتے ہیں۔ کہ (رفع یدین کرتے وقت) ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ۔ مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ بلند کریں۔

سینے پر ہاتھ باندھنا:

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر، سینے پر ہاتھ باندھے۔

(ابن حزمیمہ ۲۴۳/۱ (۴۷۹) اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا)

ہلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا۔
(مسند أحمد ۵/۲۲۶، ۲۲۳۱۳، حافظ ابن عبد البر اور علامہ عظیم آبادی نے اسے صحیح کہا)

واکل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی (کی پشت) اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ (نسائی۔ الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة: ۸۸۹، اسے ابن حبان حدیث ۱۲۸۵، ابن خزیمہ حدیث ۴۸۰ نے صحیح کہا)

ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت جوڑ اور کلائی پر آجائے اور دونوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے۔

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا: ”نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی (ذراع) پر رکھیں“ (بخاری، الاذان، باب وضع اليمين على اليسرى، ۷۴۰)

رہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے۔ (ابوداؤد، الصلاة، باب وضع اليمين على اليسرى في الصلاة، حدیث ۷۵۶) اسے امام بیہقی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے۔

عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو“ (بخاری: ۶۳۱)

یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اور مرد کانوں تک۔ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد زیر ناف اور عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور ہیئت اختیار کریں اور مرد کوئی اور... یہ دین میں مداخلت ہے۔ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لئے ایک ہیئت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام

رکوع، قومہ سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں بتایا۔

ثنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تکبیر (اولیٰ) اور قراءت کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے۔ پس میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا! میں یہ پڑھتا ہوں:

۱- ”اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ“

”یا اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ! مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اے اللہ! میرے گناہوں کو (اپنی بخشش کے) پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال“ (بخاری، الاذان باب ما يقول بعد التكبير، ۷۴۴ و مسلم، المساجد، باب ما يقول بين تكبيره الاحرام والقراءة، ۵۹۸)

۲- رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز میں ایک شخص نے کہا:

”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا“.

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ بہت بڑا۔ ساری تعریف اس کی ہے۔ وہ (ہر عیب سے) پاک ہے۔ صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔“

یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں“ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی ہے، میں نے

ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ (مسلم، المساجد، باب ما یقال بین تکبیرة الاحرام والقراءة، ۶۰۱)

۳- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو کہتے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔“

”اے اللہ تو پاک ہے، (ہم) تیری تعریف کے ساتھ (تیری پاکی بیان کرتے ہیں) تیرا نام (بڑا ہی) بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

(ترمذی، الصلاة، باب ما یقول عند الافتتاح الصلاة، ۲۴۳۔ و سنن ابی داؤد، الصلاة، باب من رای الاستفتاح،

بسبحانک... ۷۷۶، ابن ماجہ، اقامة الصلاة، باب الافتتاح الصلوة، ۱۸۰۶ سے حاکم، ۱۳۳۵ اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

تعویذ:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور پڑھتے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا۔“

”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔“

”اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو (ہر آواز کو) سننے والا (اور ہر چیز کو) جاننے والا ہے، مردود شیطان (کے شر) سے، اس کے خطرے سے، اس کی پھونکنوں سے اور اس کے وسوسے سے۔“

(ابو داؤد، الصلاة، ۷۷۵۔ اسے ابن خزیمہ حدیث ۴۶۷ نے صحیح کہا)۔



سورة فاتحه

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

”اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ بے حد رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ (اے اللہ!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا جن پر تیرا غضب نہیں کیا گیا جو گمراہ نہیں ہوئے“۔

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ قراءت ﴿أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے شروع کرتے۔

(بخاری، الاذان، باب ما يقول بعد التكبير، ۷۴۳، ومسلم، الصلاة، باب حجة من قال لا يحجر بالبسملة، ۳۹۹)
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے یا بعد میں (بلند آواز سے) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ نہیں پڑھتے تھے۔ (مسلم، ۳۹۹)

آپ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آہستہ پڑھتے تھے۔ (ابن خزیمہ، ۴۹۵)

نماز اور سورۃ فاتحہ:

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے (نماز میں) سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی“ (بخاری، الاذان، باب وجوب القراءة للامام

والماموم فی الصلوات کلھا ۷۵۶، مسلم، الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة۔ ۳۹۴)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر یوں باب باندھتے ہیں: ”نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے خواہ امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، نماز سری ہو یا جہری“۔

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے آپ نے قرآن پڑھا پس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”شاید تم امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو۔؟“ ہم نے کہا ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ”سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے“

(ابوداؤد، الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته ۸۲۳، ترمذی، الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الامام ۳۱۱۔

اسے ابن خزیمہ ۱۵۸۱۔ ابن حبان ۴۶۱۴۶۰ بیہقی نے صحیح جبکہ امام ترمذی اور دارقطنی نے حسن کہا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی پس وہ (نماز) ناقص ہے، ناقص ہے پوری نہیں“ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں (پھر بھی پڑھیں؟) تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا (ہاں) تو اس کو دل میں پڑھ۔ (مسلم، الصلاة، باب وجوب القراءة الفاتحة في كل ركعة، حدیث ۳۹۵)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھائی۔ فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قراءت کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ تین بار آپ نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا ہاں! ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو تم صرف سورت فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو“ (ابن حبان:

۱۰۵۲/۱۶۶۲۔ بیہقی ۱۶۶/۲، مجمع الزوائد میں امام بیہقی فرماتے ہیں: اس کے سب راوی ثقہ ہیں، ابن حجر نے حسن کہا)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے (چاہے وہ بلند آواز سے قراءت کرے یا آہستہ آواز سے) الحمد شریف دل میں ضرور پڑھنی چاہئے۔ مزید تحقیق کے لئے دیکھئے راقم الحروف کی کتاب

”الکواکب الدرية في وجوب الفاتحة خلف الامام في الجهرية“ (زبیر علی زئی)

آمین کا مسئلہ

جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں۔ جب ظہر اور عصر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہیں۔ لیکن جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہئے۔ بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کے کہے۔ اور مقتدیوں کو امام کے آمین شروع کرنے کے بعد آمین کہنی چاہئے۔

وَأَنَّ بِنَ حَجْرَةَ النَّبِيِّ رَوَايَتُ كَرْتِي فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِي: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھا پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ (ترمذی، الصلاة، باب ماجاء فی التامین، ۲۴۸، ابو داؤد، الصلاة، باب التامین وراء الامام، ۹۳۲۔ ترمذی نے حسن جبکہ ابن حجر اور امام دارقطنی نے صحیح کہا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ پڑھتے تو آپ کہتے آمین۔ (اس قدر اونچی آواز سے) کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے۔ (بیہقی، ۱۵۸/۲ ابن خزیمہ۔ ۵۷۱، ابن حبان، ۴۶۲، اسے امام حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں“ (بخاری، الاذان، باب جهر الامام بالتامین، ۷۸۰، مسلم، الصلاة، باب التسميع والتحميد والتامین، ۴۱۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے ابھی سورت فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوگا۔ تاکہ اسے بھی گزشتہ گناہوں کی معافی مل جائے۔ واللہ اعلم (ع)

امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی رحمت ﷺ مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم

اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آئین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ ﷺ مقتدی کو امام کی آئین کے ساتھ آئین کہنے کا حکم دیں جب کہ وہ اپنے امام کی آئین کو سن نہ سکے۔ (صحیح ابن خزیمہ ۱/۲۷۶)

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدیوں نے اتنی بلند آواز سے آئین کہی کہ مسجد گونج گئی۔ (بخاری تعلیقا، باب: جہر الامام بالتامین، مصنف عبد الرزاق ۲/۹۶، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بصیغہ جزم ذکر کیا ہے) عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے دیکھا کہ امام جب ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہتا تو لوگوں کے آئین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲/۱۸۷)

عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں نے دو سو (۲۰۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ کہتا تو سب بلند آواز سے آئین کہتے“ (بیہقی ۲/۵۹، کتاب النقات لابن حبان، اس کی سند امام ابن حبان کی شرط صحیح ہے)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس قدر یہودی سلام اور آئین سے چڑتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑتے“ (ابن ماجہ، اقامة الصلاة، باب الجهر بآئین۔ ۸۵۶۔ اسے امام ابن خزیمہ ۱/۲۸۸ حدیث ۳۸/۳۵۷ اور بوسیری نے صحیح کہا)

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آئین کہنے کو مکروہ سمجھتا۔ کیونکہ یہودی آئین سے چڑتے ہیں۔

آداب تلاوت

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”رسول اللہ ﷺ قرآن مجید کی ہر آیت پر توقف فرماتے (بعد والی آیت کو پہلی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے تھے)“۔

(ابوداؤد، الحروف والقراءات، ۴۰۰۱، اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

مذکورہ حدیث کثرت طرق کے ساتھ مروی ہے۔ اس مسئلہ میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی اگر مابعد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن کا مسنون طریقہ یہی ہے لیکن آج جمہور قراء اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ اسے خیال کرنا چاہئے کہ وہ کس ذات سے سرگوشی کر رہا ہے اور تم قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو“ (ابو داؤد، الصلاة، باب رفع الصوت بالقراءة، فی صلاة اللیل، ۱۳۳۲۔

اسے امام ابن حبان اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ، اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی سورت، لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی ہوگئی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ: ”حافظ قرآن کو کہا جائے گا: جس طرح تم دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھا کرتے تھے اسی طرح تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلو۔ تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تمہارا قرآن مجید (پڑھنا) ختم ہوگا۔

(ابو داؤد، باب استحباب الترتیل فی القراءة، ۱۴۶۴، ابن حبان اور ترمذی حدیث ۲۹۱۴ نے اسے صحیح کہا)

رسول اکرم ﷺ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ (ابو داؤد، ۱۴۶۸،

اسے امام ابن حبان اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو۔ اس کو ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اونٹ کے گھٹنوں کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظہ سے نکل جاتا ہے۔“

(دارمی، فضائل القرآن، باب فی تعاهد القرآن، ۳۳۵۲، و مسند احمد ۴/ ۱۴۶، ۱۲۴۵۰)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کسی آواز کے لئے اس قدر کان نہیں لگاتا جس قدر وہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے پر لگتا ہے“ (بخاری، فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن،

۵۰۲۳، و مسلم، فضائل القرآن، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ۷۹۲)

نماز کی مسنون قراءت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ اور قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے جو کچھ آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھ۔“

(بخاری، الاذان، باب امر النبی ﷺ الذی لا یتم رکوعه بالاعادة، ۷۹۳، مسلم: ۳۹۷)۔

نماز میں اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی رحمت ﷺ کی قراءت کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سے سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔

سورۃ اخلاص کی اہمیت:

ایک انصاری مسجد قبا میں امامت کراتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تلاوت فرماتے، ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے کہا کہ آپ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی تلاوت کرتے ہیں پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں کیا ایک سورت تلاوت کے لئے کافی نہیں ہے؟ اگر ﴿قُلْ هُوَ

اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ کی تلاوت کافی نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا، میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی رحمت ﷺ نے امام سے کہا کہ: ”تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟“ اس نے کہا مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی“ (بخاری، الاذان، باب الجمع بین السورتین فی الركعة تعلیقاً ۷۷۴ سنن

ترمذی، فضائل القرآن، باب ماجاء فی سورة الاخلاص: ۲۹۰۱، ترمذی نے حسن صحیح غریب کہا)

حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورتوں کو ترتیب سے تلاوت کرنا ضروری نہیں، واللہ اعلم [ع، ر]۔ ایک صحابی نے نبی رحمت ﷺ سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کو قیام میں صرف ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تلاوت کرتا ہے دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا: آپ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے“۔

(بخاری، فضائل القرآن، باب فضل (قل هو الله احد) ۵۰۱۳)

نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت:

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دونوں عیدوں اور جمعہ (کی نمازوں) میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور ﴿هَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ﴾ پڑھتے تھے جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی اکرم ﷺ یہ دونوں سورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے۔ (مسلم، الجمعة، باب ما يقرأ فی صلوة الجمعة ۸۷۸)

عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے۔ وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورة الجمعة اور المنافقون پڑھیں اور کہا کہ ان سورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ ﷺ کو

سنا تھا۔ (مسلم، الجمعة، باب ما یقرأ فی صلاة الجمعة، ۸۷۷)

رسول اللہ ﷺ عید قربان اور عید الفطر میں ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ اور ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ پڑھتے تھے۔ (مسلم، صلاة العیدین، باب ما یقرأ فی صلاة العیدین، ۸۹۱)

جمعہ کے دن نماز فجر کی قراءت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ﴿الْم تَنْزِيلُ﴾ پہلی رکعت میں اور ﴿هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ﴾ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔

(بخاری، الجمعة، باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعة، ۸۹۱ و مسلم، الجمعة، باب ما یقرأ فی یوم الجمعة، ۸۸۰)

نماز فجر کی مسنون قراءت:

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز فجر میں سورت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ اور اس کی مانند (کوئی اور سورت) پڑھتے تھے۔ (مسلم، الصلاة، باب القراءة فی الصبح، ۴۵۸) عبد اللہ ابن السائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی پس سورہ مومنون ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ شروع کی یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا (تو) نبی اکرم ﷺ کو کھانسی آگئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ (مسلم، الصلاة، باب القراءة فی الصبح، ۴۵۵)

عمرو بن حریش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز فجر میں ﴿وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ﴾ یعنی ﴿اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ پڑھتے ہوئے سنا۔

(مسلم، الصلاة، باب القراءة فی الصبح، ۴۵۶)

ابو ہریرہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز میں ۶۰ سے لیکر ۱۰۰

آیات تک تلاوت فرماتے۔ (مسلم، الصلاة، باب القراءة فی الصبح، ۴۶۱)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کی مہار

پکڑے ہوئے چل رہا تھا۔ آپ (سفر میں) نماز صبح کے لئے اترے اور آپ نے صبح کی نماز میں ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ پڑھی۔

(ابو داؤد، الوتر، باب فی المعوذتین، ۱۴۶۲۔ اسے حاکم/۱/۲۳۰ ذہبی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے صحیح کہا)

نبی اکرم ﷺ نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ تلاوت فرمائی۔

(ابو داؤد، الصلوة، باب الرجل یعید سورة واحدة فی البرکتین، ۱۸۱۶ امام نووی نے صحیح کہا)

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ فجر کی سنت کی دونوں رکعتوں میں نہایت ہلکی قراءت فرماتے یہاں تک کہ میں کہتی کہ آپ ﷺ نے سورت فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔“

(بخاری، التہجد، باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر، ۱۱۷۱۔ و مسلم صلاة المسافرین، باب استحباب

رکعتی سنة الفجر ۷۲۴)

آپ ﷺ سنتوں کی پہلی رکعت میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے۔ (مسلم صلاة المسافرین، باب استحباب رکعتی سنة الفجر ۷۲۶)

عصر و ظہر کی نماز کی قراءت:

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور کچھلی دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی ہمیں ایک آیت (بلند آواز سے پڑھ کر) سنا دیتے تھے۔ (بخاری، الاذان، باب یقرأ فی الاخرین بفاتحة الكتاب،

۷۷۶، مسلم، الصلاة، باب القراءة فی الظهر و العصر، ۴۵۱)

جاہل بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر میں ﴿وَالْبَلِ إِذَا يَعْتَشَى﴾ پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور عصر میں (بھی) اس کی مانند (کوئی سورت) پڑھتے تھے اور فجر میں لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔

(مسلم، الصلاة، باب القراءة فی الصبح، ۴۵۹، ۴۶۰)

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت ﷺ ظہر اور عصر میں ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ
الْبُرُوجِ﴾ اور ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ یا اس جیسی سورہ پڑھتے تھے۔

(ابو داؤد 'الصلاة' باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر' ۸۰۵ ابن حبان (حدیث ۳۶۵) نے اسے صحیح کہا)
رسول اللہ ﷺ کبھی ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں پندرہ آیات کے برابر قراءت
فرماتے جبکہ نماز عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر ۱۵ آیات تلاوت فرماتے۔

(مسلم 'الصلاة' باب القراءة في الظهر والعصر' حدیث ۴۵۲)

معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد قراءت کرنا بھی مسنون
ہے۔

ابو معمر رحمہ اللہ نے خواب ﷺ سے کہا۔ کیا رسول اللہ ﷺ ظہر و عصر میں قراءت کرتے
تھے؟ خواب ﷺ نے کہا: ہاں، پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ خواب فرمانے لگے کہ آپ کی
داڑھی کی جنبش سے۔ (بخاری 'الاذان باب من خافت القراءة في الظهر والعصر' ۷۷۷)

معلوم ہوا کہ ظہر و عصر کی نمازوں میں آپ دل میں قراءت کرتے تھے۔ کبھی آپ کی قراءت
طویل ہوتی۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ظہر کی جماعت کی اقامت ہوئی تو
میں اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضائے حاجت کے لیے گیا وہاں سے فارغ ہو کر گھر پہنچا
وضو کیا پھر مسجد آیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک نبی رحمت ﷺ پہلی رکعت میں ہیں۔

(مسلم 'الصلاة' باب القراءة في الظهر والعصر' ۴۵۴)

ابوقتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے
فرماتے تھے کہ نماز کی پہلی رکعت میں ہی شریک ہو سکیں۔ (ابو داؤد 'الصلاة' القراءة في الظهر' ۸۰۰)

نماز مغرب کی قراءت:

مروان بن حکم سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”تم مغرب کی نماز میں چھوٹی سورتیں کیوں

پڑھتے ہو؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو لمبی سورتیں پڑھتے ہوئے سنا“ (بخاری: ۷۶۴)۔
 جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز مغرب میں سورۃ
 الطور پڑھتے ہوئے سنا۔ (بخاری: الاذان باب الجهر فی المغرب، حدیث ۷۶۵ و مسلم، الصلاة، باب
 القراءة فی المغرب، ۴۶۳)

ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو (نماز) مغرب میں
 سورۃ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ پڑھتے ہوئے سنا۔

(بخاری: الاذان، باب القراءة فی المغرب، ۷۶۳ و مسلم، الصلاة، باب القراءة فی المغرب، ۴۶۲)
 ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز مغرب میں سورۃ الأعراف
 پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا۔ (نسائی: ۱۷۰/۲، ۹۹۱ سے امام نووی نے حسن کہا)
نماز عشاء کی قراءت:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز عشاء میں
 ﴿وَالْبَتِينَ وَالزَّيْتُونَ﴾ پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے نبی رحمت ﷺ سے زیادہ خوش آواز کسی کو
 نہیں سنا۔ (بخاری: الاذان، باب القراءة فی العشاء، ۷۶۹ و مسلم، الصلاة، باب القراءة فی العشاء، ۴۶۴)

جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہادی عالم ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے
 کہا: ”جب تم جماعت کراؤ تو ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا﴾ اور ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَى﴾ اور
 ﴿سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ کی تلاوت کرو اس لئے کہ تیرے پیچھے بوڑھے کمزور اور ضرورت
 مند (بھی) نماز ادا کرتے ہیں“۔

(بخاری: الاذان، باب من شكك امامه اذا طول، ۷۰۵ و مسلم، الصلاة، باب القراءة فی العشاء، ۴۶۵)

مختلف آیات کا جواب:

ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو بعض مقتدی

نماز میں باواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے کیونکہ سننے والے کو آیات کا جواب دینے کے بارے میں کوئی صحیح صریح روایت نہیں ہے۔ ہاں بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری (اپنے طور پر) ان کا جواب دے تو جائز ہے چنانچہ حدیثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ۷۷۲)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ پڑھتے تو ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى﴾ کہتے۔

(ابوداؤد، الصلوة، باب الدعاء في الصلوة، ۸۸۳۔ اسے امام حاکم اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

سورۃ العاشیۃ کے اختتام پر ”اللَّهُمَّ حَسْبُنِي حَسَابًا يَسِيرًا“ کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔ کسی حدیث میں ادنیٰ سا اشارہ بھی نہیں کہ نبی رحمت ﷺ نے ان کلمات کو سورۃ العاشیۃ کے اختتام پر کہا ہو۔

نماز میں خیال آنا:

دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لائے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا: ”مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں لہذا میں نے اسے تقسیم

کرنے کا حکم دیا“ (بخاری، الاذان باب من صلی بالناس فذكر حاجة فخطاهم، ۸۵۱)



رفع الیدین

رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں چار جگہ ثابت ہے:

(۱) شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت (۲) رکوع سے قبل (۳) رکوع کے بعد اور (۴) تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ ان مقامات پر رفع الیدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱- عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ (کندھوں تک) اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد (اسی طرح) رفع الیدین کرتے تھے“۔

(رواہ البیہقی ۷۳/۲ وقال رواہ ثقات)

۲- عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا پھر اللہ اکبر کہا پھر رکوع کیا اور اسی طرح (ہاتھوں کو بلند) کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا۔

(بیہقی فی الخلافات و رجال اسنادہ معروفون (نصب الراية ۱/ ۱۵۰، ۱۶۶، ۱۷۴)

۳- سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ (ابو داؤد: الصلاة، باب: من ذکر أنه یرفع یدیه إذا قام من الثنيتين: ۷۴۴ ابن ماجہ: ۸۶۴

اسے ترمذی (کتاب الدعوات، باب: ما جاء فی الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل: ۳۴۲۳) نے حسن صحیح کہا)

۴- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے اور سجدہ میں ایسا نہیں کرتے

تھے۔ (بخاری' الاذان باب رفع اليدين فى التسكيرة الاولى مع الافتتاح سواء' ۷۳۵۔ و مسلم' الصلاة' باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين' ۳۹۰)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (خود بھی) شروع نماز میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اور دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ (بخاری' الاذان باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين' ۷۳۹، و مسلم: ۳۹۰)

امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بنا پر مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔

(التلخیص الحبير' ج ۱ ص ۲۱۸ طبع جدید' و هامش صحيح البخارى درسى نسخه)

۵- مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے پھر جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے۔ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

(بخاری' الاذان باب رفع اليدين اذا كبر' و اذا ركع و اذا رفع' ۷۳۷ و مسلم: ۳۹۱)

۶- وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے۔ جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ نکالتے اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے جب رکوع سے اٹھتے تو (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ (مسلم' الصلاة' باب وضع يده اليمنى على اليسرى ۴۰۱)

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ۹ھ اور ۱۰ھ ہجری میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ۱۰ھ ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے ۱۱ھ ہجری میں نبی رحمت ﷺ نے وفات پائی۔ لہذا اس کی منسوخی کی کوئی دلیل موجود نہیں۔

۷- ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ: رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ نے کہا ”تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ ﷺ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔“ (ابوداؤد، الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ۷۳۰)

ترمذی، الصلاة، باب ما جاء فی وصف الصلاة، ۳۰۴ ابن حبان ۱۸۲/۵ سے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا)

امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ (صحیح ابن خزیمہ، ۱/۲۹۸، ۵۸۸)

۸- ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے (ایک دن لوگوں سے) فرمایا ”کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز نہ بتاؤں؟“ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا اور تکبیر کہی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہہ کر دونوں ہاتھ (کندھوں تک) اٹھائے۔ پھر فرمایا: ”اسی طرح کیا کرو“۔

(دارقطنی، ۱/۲۹۲۔ حافظ ابن حجر نے کہا اس کے راوی ثقہ ہیں۔ التلخیص، ۱/۲۱۹)

۹- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ (کندھوں تک) اٹھایا کرتے تھے۔ (ابن ماجہ، إقامة الصلاة،

باب: رفع الیدین إذا رکع وإذا رفع رأسه من الركوع: ۱، ۸۶۰، سے امام ابن خزیمہ، ۳۴۳/۱ (حدیث ۶۹۳) نے صحیح کہا)

۱۰- جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ (مسند السراج، ابن ماجہ، إقامة الصلاة، باب رفع الیدین إذا رکع حدیث ۸۶۸۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس کے

راوی ثقہ ہیں)

رفع الیدین نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ:

جن احادیث سے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ ملاحظہ فرمائیں۔

پہلی حدیث:

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا بات ہے کہ میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دین ہیں۔ نماز میں سکون اختیار کیا کرو“۔ (مسلم، الصلاة، باب الامر بالسکون فی الصلاة، حدیث ۴۳۰)

تجزیہ: اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ ﷺ نے انہیں منع فرمایا۔ جابر بن سمرہ ہی سے مسلم میں اس حدیث سے متصل دو روایات اور بھی ہیں جو بات کو پوری طرح واضح کر رہی ہیں۔

(۱) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمہ پر دائیں بائیں السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شیر گھوڑوں کی دین ہلتی ہیں۔ تمہیں یہی کافی ہے کہ قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہو“ (مسلم، الصلاة، باب: الأمر بالسکون فی الصلاة: ۴۳۱)

(۲) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز کے خاتمہ پر السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شیر گھوڑوں کی دین ہیں۔ تم نماز کے خاتمہ پر صرف زبان سے السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ (مسلم، ۴۳۱ کی ذیلی حدیث)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”المجموع“ میں فرماتے ہیں: جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی فتنج قسم ہے۔ کیونکہ یہ حدیث رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع الیدین کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ محدثین اور جن کو محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد امام نووی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں کیونکہ یہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے۔ اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا کیونکہ یہ معروف و مشہور بات ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائے نماز اور نماز عید میں رفع الیدین بھی منع ہو جاتیں کیونکہ اس میں کسی خاص رفع الیدین کو بیان نہیں کیا گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی کیونکہ اللہ فرماتا ہے: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾۔

”پس ان لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ انہیں (دنیا میں) کوئی فتنہ یا (آخرت میں) دردناک عذاب پہنچے“ (النور: ۶۳)

دوسری حدیث:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں۔؟ انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ۔

(ابوداؤد: الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: ۷۴۸، ترمذی: ۲۵۷)

تجزیہ: امام ابوداؤد اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں: لیس هو بصحيح على هذا اللفظ

”یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے“ (ابوداؤد حوالہ مذکور).

دارالسلام ریاض اور بیت الأ فکار الدولیہ کی شائع کردہ ابوداؤد میں یہ تبصرہ موجود ہے۔
امام ترمذی نے عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے: ”لم یثبت حدیث ابن مسعود“
”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ترک رفع الیدین کی حدیث ثابت نہیں ہے“ (ترمذی: ۲۵۴). امام ابن حبان
رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس میں بہت سی علتیں ہیں جو اسے باطل بنا رہی ہیں۔ (مثلاً اس میں سفیان ثوری
مدلس ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں۔ مدلس کی عن والی روایت تفرّد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے) [ز، ع].

تیسری حدیث:

براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ جب نماز شروع کرتے تو
دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے (ثُمَّ لَمَّ يَعْوُدُ) پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ (ابوداؤد: ۷۴۹)
تجزیہ: امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اسے سفیان بن عیینہ، امام شافعی،
امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ الحدیث رحمہم نے ضعیف قرار دیا
ہے۔ کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے (لَمَّ يَعْوُدُ) نہیں کہتا تھا، اہل کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ
الفاظ بڑھادئے۔ مزید براں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور شیعہ بھی تھا۔ آخری عمر میں حافظہ خراب
ہو گیا تھا (تقریب) نیز مدلس تھا۔

علاوہ ازیں رفع الیدین کی احادیث اولیٰ ہیں کیونکہ وہ مثبت ہیں اور نافی پر مثبت کو ترجیح
حاصل ہوتی ہے۔

بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ منافقین آستنیوں اور بغلوں میں بت رکھ لاتے تھے تو لوگ رانے کے لئے
رفع الیدین کیا گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن کتب احادیث میں اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ یہ قول
جہلاء کی زبانوں پر گھومتا رہتا ہے۔

درج ذیل حقائق اس قول کی کمزوری واضح کر دیتے ہیں:-

(۱) مکہ میں بت تھے مگر جماعت فرض نہیں تھی۔ مدینہ میں جماعت فرض ہوئی مگر بت نہیں تھے؛ پھر منافقین مدینہ کن بتوں کو بغلوں میں دبائے مسجدوں میں چلے آتے تھے؟

(ب) تعجب ہے کہ جاہل لوگ اس گپ کو صحیح مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم ﷺ کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں حالانکہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو رفع الیدین کروانے کے بغیر بھی جان سکتے تھے کہ فلاں فلاں شخص مسجد میں بت لے آیا ہے۔

(ج) بت ہی گرانے تھے تو یہ تکبیر تحریرہ کہتے وقت جو رفع الیدین کی جاتی ہے اور اسی طرح رکوع اور سجود کے دوران بھی گر سکتے تھے اس کے لئے الگ سے رفع الیدین کی سنت جاری کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

(د) منافقین بھی کس قدر بیوقوف تھے کہ بت جیسوں میں لانے کی بجائے انہیں بغلوں میں دبالائے؟

(ه) یقیناً جاہل لوگ اور ان کے پیشوا یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کے بقول اگر رفع الیدین کے دوران منافقین کی بغلوں سے بت گرے تھے تو پھر آپ نے انہیں کیا سزا دی تھی؟

در اصل یہ کہانی محض خانہ ساز افسانہ ہے۔ جس کا حقیقت کے ساتھ ادنیٰ سا تعلق بھی نہیں ہے۔ (ع ر)

یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے رفع الیدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ (نصب الراية ۱/ ۴۰۴، لیکن یہ روایت بھی مرسل اور ضعیف ہے)

تحقیق تو یہ ہے کہ مسئلہ رفع الیدین میں نسخ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ نسخ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں (۱) دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں۔ (۲) دونوں مقبول ہوں (۳) ان کا کوئی مشترکہ مفہوم نہ نکلتا ہو۔ (۴) دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ان دونوں میں سے فلاں پہلے دور کی ہے اور فلاں بعد میں ارشاد فرمائی گئی؛ تب بعد والی حدیث پہلی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔

مگر یہاں رفع الیدین کرنے کی احادیث زیادہ بھی ہیں اور صحیح ترین بھی؛ جبکہ نہ کرنے کی احادیث کم بھی ہیں اور کمزور بھی (ان پر محدثین کی جرح ہے) اب نہ تو مقبول اور مردود احادیث کا مشترکہ مفہوم اخذ کرنا جائز ہے اور نہ ہی مردود احادیث سے مقبول احادیث کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ رفع الیدین کے منسوخ نہ ہونے کے

دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

(ا) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حیات طیبہ کے آخری (۹ھ اور ۱۰ھ) میں نبی اکرم ﷺ سے رفع الیدین کرنا روایت کیا ہے۔

(ب) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عہد نبوت کے بعد بھی رفع الیدین کے قائل و فاعل رہے۔

(ج) کہا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں اگر ایسا ہی ہے تو ان چاروں میں سے تین رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں۔

(د) جن محدثین کرام رحمہم اللہ نے رفع الیدین کی احادیث کو اپنی مختلف مقبول سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں سے کسی نے یہ تبصرہ نہیں کیا کہ ”رفع الیدین منسوخ ہے“ ثابت ہوا کہ صحابہ و تابعین اور فقہاء و محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ نہیں بلکہ سنت نبوی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب جو شخص ایک غیر معصوم امتی کے عمل کو سنت نبوی پر ترجیح دیتا ہے اور سنت کو عمداً ہمیشہ چھوڑے ہوئے ہے اسے جب رسول کا دعویٰ کرنا چھٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین (ع ر) اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نے رسول اللہ ﷺ و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی یہ لوگ شروع نماز کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے“۔ (بیہقی ۲/۷۹-۸۰)۔

امام دارقطنی لکھتے ہیں کہ اس کا راوی محمد بن جابر ضعیف ہے۔ بلکہ بعض علماء (ابن جوزی، ابن تیمیہ وغیرہ) نے اسے موضوع کہا ہے۔ (یعنی یہ روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ نہیں ہے بلکہ کسی نے خود تراش کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے)۔

لہذا ایسی روایت پیش کرنا جائز نہیں ہے۔

خلاصہ: رفع الیدین کی احادیث بکثرت اور صحیح ترین اسناد سے مروی ہیں۔ عدم رفع الیدین کی احادیث معنی یا سنداً ثابت نہیں۔ امام بخاری رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔

رکوع کا بیان

رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں (یا کانوں) تک اٹھائیں۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: ”نبی اکرم ﷺ جب رکوع کیلئے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے“ (بخاری، ۷۳۵، و مسلم، ۳۹۰)

(۲) عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رکوع میں پیٹھ (پشت) بالکل سیدھی رکھتے سر نہ تو اونچا ہوتا تھا اور نہ نیچا۔ (مسلم، الصلاة، باب الاعتدال فی السجود ۴۹۸)

(۳) رسول اللہ ﷺ نے رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھا اور انہیں مضبوط پکڑا انگلیاں کشادہ رکھیں۔ اور دونوں بازو تان کر رکھے اور کہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا۔ (ابوداؤد، الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ۷۳۴، ترمذی، الصلاة، باب ماجاء انه یجا فی یدیه عن جنبہ فی الركوع، ۱، ۲۶۰، سے ترمذی اور نووی نے صحیح کہا)

☆ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رکوع میں فرماتے: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ”میرا رب عظیم (ہر عیب سے) پاک ہے“ (مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب تطویل القراءة فی صلاة اللیل، ۷۷۲) آپ یہ کلمات تین دفعہ کہتے تھے (ابن ماجہ: ۸۸۸)۔

☆ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر کہتے تھے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ ”اے ہمارے پروردگار اللہ! تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ یا الہی مجھے بخش دے“۔

(بخاری، الاذان باب الدعاء فی الركوع، ۷۹۴، و مسلم، الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، ۴۸۴)

☆ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے: ”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“ ”فرشتوں اور روح (جبریل) کا پروردگار

نہایت پاک ہے“ (مسلم، الصلوٰۃ، باب ما یقال فی الركوع والسجود ۴۸۷)

☆ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رکوع میں کہتے تھے: ”سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ“۔
”قہر“ (غلبے) بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ (نہایت ہی) پاک ہے“۔

(ابو داؤد، الصلوٰۃ، باب ما یقول الرجل فی ركوعه وسجوده، ۸۷۳، نسائی: ۱۰۴۹، ۱۹۱/۲)

☆ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکوع میں یہ پڑھتے:
”اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اسَلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُجْحِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي“۔

”اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرمانبردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے“۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب صلوة النبي ﷺ و دعائه بالليل ۷۷۱)

اطمینان، نماز کا رکن ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ ﷺ مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی (اور رکوع، سجود، قوے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا: (وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ) واپس جا، پھر نماز پڑھ۔ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ گیا، پھر نماز پڑھی (جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی) پھر آیا اور سلام کیا آپ نے پھر فرمایا: (وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ) جا پھر نماز پڑھ۔ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار (بے قاعدہ) نماز پڑھنے کے بعد کہا: ”آپ مجھے (نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ) سکھادیں، تو آپ نے فرمایا: ”جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ کھڑا ہو

کر تکبیر تحریر یہ کہہ پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع (پورا) کر پھر (رکوع سے) سر اٹھا یہاں تک کہ (تومہ میں) سیدھا کھڑا ہو جا پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ (مکمل) کر پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور (جلسہ میں) بیٹھ جا پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ (پورا) کر پھر (سجدے سے) اپنا سر اٹھا اور (دوسری رکعت کے لیے) سیدھا کھڑا ہو جا پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔

(بخاری: الاذان باب امر النبی ﷺ الذی لا یتسم رکوعه بالاعادة... ۷۹۳۔ و مسلم: الصلاة باب

و جوب قراءة الفاتحة فی کل رکعة ۳۹۷)

اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا۔ تومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔

حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع اور سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ ”تو نے نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر تم (اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے) مر گئے تو اس طریقے پر نہیں مرو گے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو پیدا کیا تھا“

(بخاری: الأذان، باب: إذا لم یتسم الركوع: ۷۹۱)۔

ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے (سے) سر اٹھا کر بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر (اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے)۔ (ابوداؤد: الصلاة: باب صلاة من لا یقیم صلبه فی الركوع والسجود: ۸۵۵،

ترمذی: الصلاة باب ما جاء فی من لا یقیم صلبه فی الركوع والسجود: ۲۶۵۔ امام ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے (یعنی ان کا گناہ کتنا ہے)؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے۔ اور (کان کھول کر) سنو بہت بری چوری، اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا وہ کس طرح؟ فرمایا: ”جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے“ (موطا امام مالک ۱/۶۷ باب العمل فی

جامع الصلاة ابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي ۸/۲۰۹ - ۲۱۰ سے حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

اللہ اکبر! کس قدر خوف کا مقام ہے آہ! ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا؟ ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہئے۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اس وقت آپ رکوع میں تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے۔ نبی رحمت ﷺ کو یہ بات بتائی گئی۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ تیرا شوق زیادہ کرے آئندہ ایسا نہ کرنا“ (بخاری الاذان باب اذا رکع دون الصف ۷۸۳)

بعض لوگ اس حدیث سے یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو وہ اسے رکعت شمار کرے گا کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رکعت نہیں دوہرائی نہ ہی آپ ﷺ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام ضروری ہے نہ فاتحہ۔ یہ مؤقف محل نظر ہے کیونکہ:

(الف) نبی اکرم ﷺ نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں؟ یا انہوں نے از خود رکعت کو لوٹا یا تھا یہ نہیں؟ اس کے متعلق حدیث خاموش ہے اس ضمن میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ محض ظن و احتمال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔

(ب) اس کے برعکس ایسے صریح دلائل موجود ہیں جو (ہر صاحب استطاعت کے لیے) قیام اور فاتحہ دونوں کو لازم قرار دیتے ہیں اور

(ج) قاعدہ یہ ہے کہ جب احتمال اور صراحت آئے سانسے آ جائیں تو احتمال کو چھوڑ دیا جائے گا اور صراحت پر عمل کیا جائے گا۔

(د) سیدی سی بات ہے کہ اس حدیث شریف کا مرکزی نکتہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے پھر اسی کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے آپ ﷺ نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا۔ جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہر حال مستحسن نہ تھا۔

(ه) لہذا اس حدیث کو اس کے اصل نکتے سے ہٹا کر قیام اور فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پر لانا درست معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ (ع ر)

توے کا بیان:

ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی تھی“۔

(بخاری: الأذان، باب: سنة الجلوس في التشهد: ۸۲۸)۔

☆ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب امام (رکوع سے اٹھتے ہوئے) کہے: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ”اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔“ تو تم کہو: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ”اے ہمارے رب! تیرے ہی واسطے تعریف ہے،“ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل گیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (بخاری: الأذان باب فضل (اللهم ربنا ولك الحمد)

(الحمد) ۷۹۶ و مسلم: الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين: ۴۰۹)

رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکوع سے سراٹھایا تو فرمایا: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ایک مقتدی نے کہا (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ) پھر جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”بولنے والا کون تھا؟“ (یعنی کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟) ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تیس سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے

میں جلدی کر رہے تھے۔ (بخاری الاذان باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ۷۹۹)

☆ عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ رکوع سے اٹھتے تو (قومہ میں دعا پڑھتے):

”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ“.

”اللہ نے سن لی اس (بندے) کی بات جس نے اس کی تعریف کی اے ہمارے اللہ! تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے آسمانوں، زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے“ (مسلم، الصلاة، باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع، ۴۷۶)

☆ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے:

”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ السَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“.

”اے ہمارے پروردگار! ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لئے ہے آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ! کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی“ (مسلم، الصلاة، باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع، حدیث ۴۷۷)

☆ رسول اللہ ﷺ قومے میں فرماتے:

”اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ“

بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا
كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسْخِ“.

”اے اللہ! تیرے ہی لئے ساری تعریف ہے آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ
کے برابر جو تو چاہے اے اللہ! مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ!
مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا
جاتا ہے۔ (مسلم: ۴۷۶)

تنبیہ:

بہت سے لوگوں کو قومے کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ رکوع کے بعد اطمینان سے
سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کر
بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے۔

براء بن اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا رکوع، سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا
اور رکوع سے (اٹھ کر قومہ میں) کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا سوائے قیام اور تشہد بیٹھنے کے۔ (یعنی یہ
چاروں چیزیں: رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ طوالت میں تقریباً برابر ہوتی تھیں) (بخاری: الاذان باب

حداتمام الركوع والاعتدال فيه، ۷۹۲ و مسلم: الصلاة باب اعتدال ارکان الصلاة و تخفيفها في تمام، ۴۷۱)

بعض اوقات آپ ﷺ کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”نبی اکرم ﷺ
اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں“ (بخاری: الاذان، باب: المکث بین

السجدتين: ۸۲۱، مسلم: الصلاة باب اعتدال ارکان الصلاة و تخفيفها، ۴۷۲)

مگر افسوس کہ آج مسلمان قومہ لمبا کرنا تو رہا درکنار پیٹھ سیدھی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے فوراً سجدہ کرنے کی
کوشش کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آمین (ع ر)

سجدے کے احکام

(۱) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے“

(ابوداؤد، الصلاة، باب کیف یضع رکبتيه قبل یدیه، ۸۴۰۔ امام نووی اور زرقانی نے اس کی سند کو چید کہا)

سجدہ میں گھٹنے پہلے رکھنے والی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت (ابوداؤد ۸۳۸) کو امام دارقطنی، بیہقی اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ضعیف کہا ہے۔ جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پہلے رکھنے والی روایت صحیح ہے اور ابن عمر کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے۔

نافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔ (ابن حزمیمة ۱/۳۱۹، حدیث ۶۲۷، مستدرک ۱/۲۲۶، اسے حاکم ذہبی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا)

گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، مالک، احمد بن حنبل اور شیخ احمد شاہ کریم نے اختیار کیا ہے۔ ابن ابی داؤد نے کہا: میرا رجحان حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف ہے کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں۔

(۲) رسول اللہ ﷺ سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے (یعنی اپنے بازوؤں کو بغلوں سے نہ ملاتے تھے) اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھتے۔ (ابوداؤد، الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ۷۳۴۔ اسے امام ابن خزیمہ ۶۳ اور ترمذی ۳۰۴ نے صحیح کہا)

(۳) رسول اللہ ﷺ سجدہ میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھتے۔

(ابوداؤد، الصلاة، باب رفع الیدین فی الصلاة، ۷۲۶۔ اسے امام ابن حبان (حدیث ۲۸۵) نے صحیح کہا)

- (۴) رسول اللہ ﷺ جب رکوع کرتے تو انگلیوں کو کشادہ کرتے اور جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھتے۔ (حاکم، ۲۲۷/۱، بیہقی ۱۱۲/۲، حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح کہا)
- (۵) رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں پیشانی اور آپ نے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر اور (یہ کہ ہم نماز میں) اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔“

(بخاری، الاذان، باب السجود علی الانف ۸۱۲، و مسلم، الصلاة، باب اعضاء السجود ۴۹۰)

ہر بہن بھائی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سجدہ میں ان سات اعضاء کو خوب اچھی طرح (مکمل طور پر) زمین پر ٹکا کر رکھیں اور اطمینان سے سجدہ کریں۔ اور مرد نماز میں اپنے آستینوں کو نہ چڑھائیں کیونکہ کپڑا اکٹھا کرنا منع ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے سجدہ میں اپنی ہتھیلیوں اور گھٹنوں کو زمین پر ٹکایا۔

- (ابوداؤد، الصلاة، باب: صلاة من لا یقیم صلیۃ فی الركوع والسجود ۸۵۸، ۸۵۹، اسے امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا)
- (۶) نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ (دارقطنی، ۳۴۸/۱۔ اسے حاکم اور ابن جوزی نے صحیح کہا)

(۷) ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سجدہ کی حالت میں دیکھا آپ کے پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ تھے۔ (بیہقی ۱۱۶/۲۔ اسے ابن خزیمہ ۶۵۴، حاکم ۲۲۸/۱ اور ذہبی نے صحیح کہا)

(۸) سجدے کی حالت میں نبی رحمت ﷺ اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف مڑے ہوئے ہوتے تھے۔ (بخاری الاذان، باب سنة الجلوس فی التشہد، ۸۲۸)

عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں

کو اتنا کھولتے کہ ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی (بخاری: ۸۰۷، مسلم: ۴۹۵).

عورتیں سجدے میں بازو نہ بچھائیں:

بہت سی عورتیں سجدہ میں بازو بچھالیتی ہیں۔ اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پر کھڑا نہیں کرتیں۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان اور سنت کے خلاف ہے سنئے! رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی (مرد یا عورت) اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتابچھا تا ہے“۔

(بخاری الاذان باب لا یفتش ذراعیہ فی السجود' ۸۲۲۔ مسلم' الصلاة' باب الاعتدال فی السجود' ۴۹۳)

نبی رحمت ﷺ کے اس فرمان سے صاف عیاں ہے کہ نمازی (مرد یا عورت) کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کہنیاں (یعنی بازو) زمین سے اٹھا کر رکھنے چاہئیں نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ میری معزز مسلمان بہنو! اپنے پیارے رسول کریم ﷺ کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو۔

براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم سجدہ کرو تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کہنیوں کو بلند کرو“ (مسلم: ۴۹۴)۔

رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ بانہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ (مسلم' الصلاة' باب الاعتدال فی السجود' ۴۹۶)

بعض لوگ یہ فضول عذر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سجدے میں بی بی کی چھاتی زمین سے بلند ہو جاتی ہے جو بے پردگی ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کے لیے اوڑھنی کو لازم قرار دیا ہے یہ اوڑھنی دوران سجدہ بھی پردے کا تقاضہ پورا کرتی ہے پھر آج کی کوئی خاتون صحابیات رضی اللہ عنہن کی غیرت اور شرم و حیا کو نہیں پہنچ سکتی جب انہوں نے ہمیشہ سنت کے مطابق نماز ادا کی تو آج کی خاتون کو بھی انہی کی راہ چلنی چاہیے (ع' ر)

نہایت درجہ قرب الہی:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'پیشک بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ پس (سجدے میں) بہت دعا کرو'۔

(مسلم، الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود - ۴۸۲)

اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت ﷺ سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدہ کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے۔ (بخاری: الصلاة، باب: السجود علی الثوب

فی شدة الحر: ۳۸۵، مسلم، المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في اول الوقت في غير شدة الحر ۶۲۰)

رمضان المبارک کی اکیسویں رات تھی۔ بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور آپ ﷺ نے کچھڑ میں سجدہ کیا۔ آپ کی پیشانی اور ناک پر کچھڑ کا نشان تھا۔ (بخاری، الاعتكاف، باب

من خرج من اعتكافه عند الصبح، ۲۰۴۰۔ مسلم، الصيام، باب فضل ليلة القدر ۱۱۶۷)

ایک دفعہ آپ ﷺ نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زمین پر زیادہ عرصہ پڑی رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی۔

(بخاری، الصلوة، باب الصلوة علی الحصير، ۳۸۰ و مسلم، المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة ۶۵۸)

لمبا سجدہ کرنا:

عام طور پر رسول اللہ ﷺ کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کسی عارضہ کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے۔ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے

تشریف لائے۔ آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھالیا۔ پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”ایسی کوئی بات نہیں تھی بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدہ سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کر دوں“ (نسائی: التطبيق، باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة: ۲/۲۲۹، ۲۳۰ (۱۱۴۱))،

اسے امام حاکم ۳/۱۶۲۷ بن خزیمہ ۱۰۳۷ نے صحیح کہا)

بہشت میں رسول اللہ ﷺ کا ساتھ:

ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رات گزارتا تھا۔ آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی (دیگر) ضروریات (مسواک وغیرہ) لاتا تھا۔ (ایک رات خوش ہو کر) آپ نے مجھے فرمایا: ”(کچھ دین و دنیا کی بھلائی) مانگ“ میں نے عرض کی: بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا: ”اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟“ میں نے کہا بس یہی! پھر آپ نے فرمایا: ”پس اپنی ذات کے لئے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر“ (مسلم: الصلاة، باب فضل السجود والحث علیہ ۴۸۹)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ بزرگوں سے ملاقات کے دوران ان سے دعا کروانا جائز ہے۔ اس حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ میں چونکہ کل مخلوق کا حاجت روا اور مشکل کشا ہوں لہذا مجھ سے ہر قسم کی غیبی مدد مانگا کرو اس کے برعکس نبی اکرم ﷺ جناب ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔ (ع ر)

جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لئے میں تیرے لئے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایات کے مطابق دوئی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر۔ اسی طرح آپ نے ربیعہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول

مدعا کے لئے دعا سے کوشش کرتا ہوں اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر۔ اسی طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔

ثوبان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ نے فرمایا: ”اللہ کے لئے (پورے خلوص و حضور کے ساتھ) سجدوں کی کثرت لازم کر، پس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ (بھی) مٹائے گا“
(مسلم، الصلاة، باب فضل السجود والحث علیہ، ۴۸۸)

سجدے کی دعائیں:

(۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں۔ پس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو۔ تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی“ (مسلم، الصلاة، باب النهی عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ۴۷۹)

(۲) حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سجدے میں (یہ دعا) پڑھتے:

”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ ”میرا بلند پروردگار (ہر عیب سے) پاک ہے“۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل: ۷۷۲)

آپ یہ کلمات تین دفعہ کہتے تھے (ابن ماجہ: ۸۸۸)۔

(۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سجدے میں (یہ) کہتے تھے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوْلَاهُ وَأَخْرَهُ وَعَلَانِيَةً وَسِرَّةً“۔
”اے اللہ! میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ، تمام گناہ بخش دے“۔

(مسلم، الصلاة، باب: النهی عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ۴۸۳)

(۵) عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکوع یا سجدہ میں فرماتے تھے:

”سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“۔

”اے اللہ! تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے۔ تیرے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے“ (مسلم: ۴۸۵)

(۶) رسول اللہ ﷺ سجدے میں فرماتے: ”اللَّهُمَّ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ“ ”اے اللہ میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیرے غصے سے تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے“۔ (مسلم: ۴۸۶)

(۱۰) سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے: ”اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسَلْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاحْسَنَ صُوْرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ“ ”اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا۔ میں تجھ پر ایمان لایا۔ میں تیرا فرمانبردار ہوا۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا۔ اس کی اچھی صورت بنائی۔ اس کے کان اور آنکھ کو کھولا۔ بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے“۔ (مسلم: ۷۷۱)

سجدہ تلاوت:

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”جب آدم کا (مومن) بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے۔ پھر (پڑھنے اور سننے والا) سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی! آدم کے بیٹے کو سجدہ کا حکم دیا گیا۔ اس نے سجدہ کیا۔ پس اس کے لئے بہشت ہے اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا میں نے نافرمانی کی پس میرے لئے آگ ہے“۔

(مسلم، الايمان، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ۸۱)

(۱۱) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدے کی آیت تلاوت کرتے تو آپ سجدہ کرتے۔ اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ (بخاری، سجود القرآن،

باب من سجد لسجود القاری '۱۰۷۵، مسلم: المساجد، باب: سجود التلاوة: (۵۷۵)

(۱۲) عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور سجدہ تلاوت میں یہ پڑھتے: ”سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“۔ ”میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اپنی طاقت اور قوت سے اسے پیدا کیا اس کے کان اور آنکھیں بنائیں پس اللہ بہترین تخلیق کرنے والا بڑا بابرکت ہے۔ (ابوداؤد ابواب السجود، باب ما يقول اذا سجد ۱۴۱ - اسے امام ترمذی حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ اور ”فتبارك الله احسن الخالقين“ کے الفاظ مستدرک حاکم ۲۲۰/۱ میں ہیں)

(۱۳) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت ﷺ کے سامنے سورت نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ (بخاری: سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، ۱۰۷۲، مسلم: المساجد، باب سجود التلاوة، ۵۷۷)۔ معلوم ہوا سجدہ تلاوت واجب نہیں۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر سورۃ النحل پڑھی جب سجدے کی آیت آئی تو منبر پر سے اترے اور سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا، دوسرے جمعہ کو پھر یہی سورہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر فرمایا: لوگو جب ہم سجدہ کی آیت پڑھتے ہیں تو جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے اس پر گناہ نہیں (بخاری: سجود القرآن: ۱۰۷۷)۔

سجدہ شکر:

ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے (ابن ماجہ: إقامة الصلاة: ۱۳۹۴)۔

اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول کی تو کسی نے بلند آواز سے پکارا اے کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے، آواز سنتے ہی کعب بن مالک سجدہ میں گر گئے۔

(بخاری: المغازی، باب: حدیث کعب بن مالک: ۴۲۱۸، مسلم: التوبہ: ۲۷۶۹)۔

جلسہ : (دوسروں کے درمیان بیٹھنا)

”رسول اللہ ﷺ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بائیں پاؤں موڑتے (یعنی بچھاتے) پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی (یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو آگے آتی ہیں پڑھ کر) پھر (دوسرا) سجدہ کرتے۔ (ابوداؤد، ۷۳۰، ترمذی، ۳۰۴)

آپ ﷺ کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔

(بخاری، الاذان باب سنة الجلوس فی التشہد، ۸۲۸)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کی جائیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھا جائے۔ (نسائی، التطبيق، باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة ۱۱۵۸۔ اسے امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے صحیح کہا)

اور کبھی کبھی آپ ﷺ اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قدموں اور ایڑیوں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بنی اکرم ﷺ کی سنت ہے۔ (مسلم، المساجد، باب جواز الاقعاء علی العقبین، ۵۳۶)

نبی رحمت ﷺ خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے۔ لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نبی رحمت ﷺ کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا۔ کبھی کبھی زیادہ (دیر تک) بیٹھتے یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ (دوسرا سجدہ کرنا) بھول گئے۔

(بخاری، ۸۲۱، و مسلم، ۴۷۲)

جلسے کی مسنون دعائیں:

۱- ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دونوں سجدوں کے

درمیان (یہ) پڑھتے:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي“.

”اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت سے رکھ، مجھے ہدایت دے اور مجھے

روزی عطا کر“ (ابوداؤد، الصلاة، باب الدعاء بين السجدين ۸۵۰۔ ترمذی، الصلاة، باب ما يقول بين السجدين

۲۸۴۔ اسے حاکم ذہبی اور نووی نے صحیح کہا)

حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے

تھے: ”رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي“.

”اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما“ (ابو داؤد، الصلاة، باب

ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ۸۷۴، ابن ماجه ۸۹۷ حاکم ۱ / ۲۷۱ اور ذہبی نے صحیح کہا)

دوسرا سجدہ:

جب آپ پورے اطمینان سے جلسے کے فرائض سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا سجدہ کریں اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع و خضوع اور کامل اطمینان سے دعائیں پڑھیں اور پھر اٹھیں۔

جلسہ استراحت:

دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے۔ اب دوسری رکعت کے لئے آپ کو اٹھنا ہے لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں اس کی صورت یہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ (اللَّهُ أَكْبَرُ) کہتے ہوئے (دوسرے سجدے) سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے (بچھاتے اور) اس پر بیٹھتے اتنی دیر تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ پھر (دوسری رکعت کے لیے) کھڑے ہوتے۔

(ابوداؤد، ۷۳۰ ترمذی، ۳۰۴ ابن ماجه، اقام الصلاة، باب اتمام الصلاة، ۱۰۶۱)

رسول اللہ ﷺ اپنی نماز کی طاق (پہلی اور تیسری) رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل

سیدھے بیٹھتے تھے۔ (بخاری، الاذان باب من استوی قاعدا ۸۲۳)

رسول اللہ ﷺ جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تو پہلے بیٹھتے پھر اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھتے۔ (بخاری، الاذان، باب: کیف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة: ۸۲۴)

دوسری رکعت:

رسول اللہ ﷺ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمد شریف کی قراءت شروع کر دیتے اور (دعائے افتتاح کے لئے) سکتہ نہیں کرتے تھے۔

(مسلم، المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة، ۵۹۹)

تشہد

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ دوسری رکعت کے بعد (دوسرے سجدے سے اٹھ کر) بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، ان سے کہا گیا آپ تو ایسا نہیں کرتے تو فرمانے لگے میرے پاؤں مجھے سہارا نہیں دے سکتے۔

(بخاری، الاذان، باب سنة الجلوس في التشهد ۸۲۷)

مسئلہ رفع سبابہ:

تشہد میں انگلی کا اٹھانا رسول اللہ ﷺ کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز (کے قعدہ) میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور داہنے ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور اپنی دہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اٹھا لیتے، پس اس کے ساتھ دعا مانگتے اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا لیتے۔ (مسلم، المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة، ۵۸۰)

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب (نماز میں) تشہد پڑھنے

بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ ایک روایت میں ہے کہ بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے (مسلم: ۵۷۹)۔

معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے ران پر۔
وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت (کلیے کی انگلی) سے اشارہ کیا۔

(ابوداؤد: الصلاة، باب رفع الیدین فی الصلاة، ۷۲۶۔ اسے امام ابن حبان ۱۲۸۵ اور ابن خزیمہ ۱۳۷۳ نے صحیح کہا)
وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے۔
(نسائی: الافتتاح، باب موضع الیمین من الشمال فی الصلاة، ۸۸۹، اسے ابن حبان ۱۲۸۵ اور ابن خزیمہ ۱۳۷۳ نے صحیح کہا)۔
شیخ البانی فرماتے ہیں انگلی کو حرکت نہ دینے والی روایت شاذ یا منکر ہے۔ لہذا اسے حدیث
وائل بن حجر کے مقابلے میں لانا جائز نہیں ہے۔
صرف (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت
نہیں ہے۔

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی نظر (تشہد میں) ان کی انگلی کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی (ابو داؤد: الصلاة، باب: الإشارة فی التشہد: ۹۹۰)۔
سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور میں (تشہد میں)
دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا: ایک انگلی سے، ایک انگلی سے (اشارہ کرو) یعنی
شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرو (نسائی: السہو، باب: النهی عن الإشارة بإصبعین: ۱۲۷۳)۔

تشہد:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نماز میں (قعدہ کے لیے) بیٹھو تو یہ پڑھو:

”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“.

”(میری ساری) قویٰ بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لئے خاص ہے۔ اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں اور ہم پر اور اللہ کے (دوسرے) نیک بندوں پر (بھی) سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر جو دعا پسند ہو وہ مانگ، ان کلمات کو ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔

(بخاری، الاذان باب التشهد فی الاخرة، ۸۳۱، ومسلم، الصلاة، باب التشهد فی الصلاة، ۴۰۲)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان موجود رہے ہم (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) کہتے رہے، جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے خطاب کا صیغہ چھوڑ کر غائب کا صیغہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی پھر ہم (السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ) پڑھتے تھے۔ (بخاری، الاستئذان، باب الاخذ بالیدين، ۶۲۶۵)

پہلے جملے کا معنی ہے: اے نبی ﷺ آپ پر سلامتی ہو۔ دوسرے جملے کا معنی ہے: ”نبی اکرم ﷺ پر سلامتی ہو“۔

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم ﷺ کو عالم الغیب یا حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے۔ وگرنہ وہ (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) کی جگہ (السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ) نہ پڑھتے۔ الفاظ تشہد (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيِّ) سے شریکِ عقیدہ (آپ کے عالم الغیب یا حاضر ناظر ہونے) کی قطعاً تائید نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان السلام علیک ایہا النبی اس لئے نہیں بلکہ سنت کی پیروی کی بنا پر پڑھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا سلام نبی اکرم ﷺ تک پہنچاتے ہیں (ابوداؤد المناسک باب زیارة القبور ۲۰۴۲)۔

جس طرح ہم اپنے خطوط میں بصیغہ خطاب ایک دوسرے کو سلام بھیجتے ہیں اسی طرح ہمارا سلام بھی اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ اور صحابہ سے ثابت ہے اس لئے یہ اس صلوٰۃ و سلام کی دلیل نہیں بن سکتا جو لوگ اذان سے قبل یا اٹھتے بیٹھتے الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ آپ ﷺ ہمارا سلام سن رہے ہیں۔ یقیناً صحابہ کی پیروی میں کامیابی ہے اور خود ساختہ اعمال بدعت ہیں گمراہی میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ (ع'ر)

رسول اللہ ﷺ درمیانی تشهد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے (مسند الإمام أحمد: ۱/۴۵۹، ۴۳۸۲ اس کی سند صحیح ہے)۔ لہذا درمیانی تشهد میں صرف تشهد کافی ہے۔

اور اگر کوئی شخص تشهد کے بعد درود اور دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم دو رکعت پڑھو تو التیحات کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ کرو“ (نسائی، التطبيق، باب کیف التشهد الاول، ۱۱۶۳)

اور دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرے، اس کی تعریف کرے پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجے پھر اپنے لئے جو چاہے دعا مانگے۔ (ابوداؤد، الوتر، باب الدعاء، ۱۴۸۱۔ اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا)

لہذا درمیانی تشهد میں تشهد کے بعد درود اور دعا بھی کی جاسکتی ہے۔

قعدۂ تشهد سے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور رفع الیدین کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ دو رکعت پڑھ کر (تشہد کے بعد) کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اور دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ (بخاری: ۷۳۹)

آخری قعدہ (تشہد):

اس آخری قعدے میں رسول اللہ ﷺ یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے (یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لئے بیٹھتے) تو اپنا بائیں پاؤں (دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر) نکالتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے نصب کرتے اور اپنی بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے۔ پھر (تشہد درود اور دعا پڑھ کر) سلام پھیرتے۔ (بخاری: ۸۲۸، أبو داؤد: ۷۳۰)۔

بائیں جانب کولہے پر بیٹھنا ”تَوَرُّكٌ“ کہلاتا ہے۔ یہ سنت ہے۔ ہر مسلمان کو آخری قعدے میں تورک ضرور کرنا چاہئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری عورتیں تو آخری تشہد میں تورک کریں اور مرد اس سنت رسول ﷺ سے محروم رہیں۔

نبی رحمت ﷺ نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا آپ نے فرمایا: ”ایسے نہ بیٹھو، اس طرح وہ بیٹھتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا“ (مسند احمد عن عبد اللہ بن عمر: ۱۱۶/۲، ۵۹۷۲، وإسناده حسن)

جب آپ اس قعدے میں بیٹھیں تو پہلے التحیات پڑھیں جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قعدے میں پڑھی تھی اور رفع سبابہ بھی بدستور کریں۔ التحیات ختم کر کے مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں۔

کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں آپ نے فرمایا کہو:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“۔

”یا الہی رحمت فرما محمد ﷺ اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بیشک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت فرما محمد ﷺ اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بیشک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے“ (بخاری، أحادیث الانبیاء، باب ۱۰ حدیث ۳۳۷۰، مسلم: ۴۰۶)

ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہو:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“ (مسلم: الصلاة، باب: الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد: ۴۰۶).

ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں آپ نے فرمایا کہو:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“.

”اے اللہ! محمد ﷺ ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی اور محمد ﷺ، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے“ (بخاری، ۳۳۶۹، مسلم: ۴۰۷)

کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں ”سیدنا“ یا ”مولانا“ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو درود سکھایا تھا جب اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا (مسنون) طریقہ یہ ہے کہ (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...) کے

الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو ”سیدنا“ کے لفظ سے خالی ہے۔

ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تشریف لائے۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ ”اے محمد! کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہوں اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجتا ہوں“

(نسائی ۳/ ۵۰، ۱۲۹۰۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا)

درود کے بعد کی دعائیں:

(۱) ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں (آخری قعدے میں) یوں دعا فرماتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ.“

”یا الہی! میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے یا الہی! میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں“۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ قرض سے بہت پناہ کیوں مانگتے ہیں، آپ نے فرمایا: جب آدمی قرض دار ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے“۔

(بخاری، الأذان باب الدعاء قبل السلام ۸۳۲، ومسلم، المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ۵۸۹)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”تشہد میں چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو“ وہ

یہ ہیں:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“.

”اے اللہ! میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ اور مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں“ (مسلم ۵۸۸)

نبی رحمت ﷺ یہ دعا صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ (مسلم ۵۹۰) لہذا اسے پڑھنا ضروری ہے۔

(۲) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ! نماز میں مانگنے کے لئے مجھے (کوئی) دعا سکھائیے (کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں) تو آپ نے فرمایا! پڑھ:

”اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ“.

”یا الہی! بلاشبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، پس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے“ (بخاری، الاذان باب الدعاء قبل السلام، ۸۳۴ و مسلم الذکر والدعاء باب الدعوات والتعوذ: ۲۷۰۵)

(۳) سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“.

”اے اللہ! تو میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر (تمام) گناہ معاف فرما اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے (وہ بھی معاف فرما) تو ہی (اپنی درگاہ عزت

میں) آگے کرنے والا اور (اپنی بارگاہ جلال سے) پیچھے کرنے والا ہے۔ صرف تو ہی (سچا) معبود ہے“ (مسلم، صلاة المسافرين، باب صلوة النبی ﷺ و دعائه باللیل (۷۷۱)

(۴) مجن بن الادرع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص مسجد کے آخر میں یہ دعا کر رہا تھا:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْأَحَدَ الصَّمَدَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“.

”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ تو واحد، اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ جنم نہ جنم کیا اور نہ اس کا کوئی شریک ہے کہ تو مجھے اور میرے گناہ معاف کر دے بیشک تو بخشنے والا بہت مہربان ہے“.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیری بخشش ہوگی، تیری بخشش ہوگی، تیری بخشش ہوگی“.

(أبو داود: ۹۸۵، نسائی: ۱۳۰۱، ۵۲/۳).

(۵) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے تشہد میں یہ دعا کی:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ“.

”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ حمد تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے حد احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا بزرگ اور عزت والا، زندہ اور قائم رکھنے والا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں“.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کے عظیم ناموں کے ساتھ دعا کی ہے جو شخص ان کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے اور

جب وہ مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے“ (نسائی: السہو ۳۰۰)۔

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نماز میں یہ دعا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّيْتَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْإِنْخِلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ“۔

”اے اللہ! میں تیرے غیب جاننے اور خلق پر قدرت رکھنے کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو میرے لیے زندگی بہتر جانے اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر جانے، میں غائب اور حاضر کی حالت میں تجھ سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں اور راضی اور غصے کی حالت میں خالص بات کہنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور میں تجھ سے تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے موت کے بعد کی زندگی کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں اور میں تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت دینے والا ہدایت پانے والا بنادے“ (نسائی: ۱۳۰۶، ۵۵/۳)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ“۔

”اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیے اور ان اعمال کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیے“ (نسائی: ۱۳۰۷، ۳/۵۶، مسلم: الذکر والدعاء: ۲۷۱۶)۔

نماز کا اختتام:

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے (تو کہتے): (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) (ابو داؤد: الصلاة، باب: فی السلام، ۹۹۶، ترمذی الصلاة، باب ماجاء فی التسليم فی الصلاة، ۲۹۵۔ اسے ترمذی اور ابن حبان نے صحیح کہا)

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) (یعنی صرف دائیں طرف والے سلام میں (وَبَرَكَاتُهُ) کا اضافہ کرتے)۔ (ابو داؤد: الصلاة، باب: السلام، ۹۹۷، امام نووی اور امام ابن حجر نے اسے صحیح کہا)



جو امور نماز میں کرنے جائز ہیں ان کا بیان

۱- نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”نماز میں دو کالوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو“۔

(ابوداؤد الصلوة، باب العمل فی الصلوة، ۹۲۱)

۲- نماز میں بچے کو اٹھانا:

ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ زینب کی بیٹی امامہ (آپ ﷺ کی نواسی) آپ کے کندھوں پر تھی۔ آپ سجدہ فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ (بخاری، الصلوة، باب اذا حمل حارية

صغيرة على عنقه في الصلوة، ۵۱۶۔ مسلم، المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلوة، ۵۴۳)

۳- صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا آپ نے (زبان سے کچھ کہے بغیر) دائیں ہاتھ کی انگلی کے

اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ (ابوداؤد الصلوة، باب رد السلام في الصلوة، ۹۲۵ و ۹۲۷)

۴- چھینک آنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا:

رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی، دوران نماز میں چھینکا اور میں نے کہا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ“۔

پس جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا: ”نماز میں کلام کرنے والا کون تھا؟“ تین بار آپ نے پوچھا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں تھا، آپ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تیس فرشتے اس کلمہ کو لے جانے کے لیے جلدی کر رہے تھے“۔

(ترمذی: الصلوة، باب: ما جاء في الرجل يعطس في الصلوة، ۴۰۴، امام ترمذی نے حسن کہا)۔

نماز کی مکروہات کا بیان

(۱) نبی اکرم ﷺ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ (بخاری، العمل فی

الصلاة، باب الخصر فی الصلاة، ۱۲۲۰۔ و مسلم، المساجد، باب کراهية الاختصار فی الصلاة، ۵۴۵)

(۲) نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے حتی المقدور روکے کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے“۔

(مسلم، الزهد، باب تشمیت العاطس و کراهية التثاؤب، ۲۹۹۵)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”(جمائی کے وقت) ہا ہانہ کہو کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے“

(بخاری، بدء الخلق، باب صفة ابليس و جنوده، ۳۲۸۹)

(۳) سائب بن یزید نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا۔ جب امام نے سلام پھیرا تو سائب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے: آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملاؤ۔ ان (فرض اور سنت) کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو“ (مسلم، الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حدیث ۸۸۳)

مغیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”امام جس جگہ نماز پڑھ چکا ہے وہاں نماز نہ پڑھے بلکہ وہاں سے سرک جائے (یعنی جگہ تبدیل کر لے)“۔

(نسائی، الصلاة، باب: الإمام يتطوع في مكانه: ۴۱۴)۔

(۴) زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے پھر:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (البقرہ ۲۳۸) نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا۔ (بخاری، العمل فی الصلاة، باب ما ينهى من الكلام فی الصلاة، ۱۲۰۰۔ مسلم،

المساجد، باب تحريم الكلام فی الصلاة، ۵۳۹)

سجدہ سہو کا بیان

سجدہ سہو سے وہ دو سجدے مراد ہیں جو نمازی نماز میں بھول کی وجہ سے سلام سے پہلے یا بعد میں کرتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں جب تم میں کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے“ (بخاری: السہو، باب: السہو فی الفرض والتطوع: ۱۲۳۲، مسلم: المساجد، باب: السہو فی الصلاة والسجود له: ۳۸۹)۔

تین یا چار رکعات کے شک پر سجدہ:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کہ تین پڑھی ہیں یا چار؟ تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے۔ پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرے۔ اگر اس نے پانچ رکعات نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز (کی رکعات) کو جفت کر دیں گے اور اگر اس نے پوری چار رکعات نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے شیطان کے لئے ذلت کا سبب ہوں گے“۔

(مسلم: المساجد، باب السہو فی الصلاة والسجود له: ۵۷۱)

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو تو وہ اس کو ایک رکعت یقین کرے اور بقیہ نماز پوری کرے اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے دو پڑھی ہیں یا تین تو وہ اس کو دو رکعت یقین کرے۔ اور پھر (آخری قعدے میں) سلام پھیرنے سے پہلے (سہو کے) دو سجدے کرے۔

(ترمذی: الصلاة، باب: ما جاء فی الرجل یصلی فی شک فی الزیادة والنقصان، ۳۹۸۔ وابن ماجہ: اقامة الصلاة)

باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع الى اليقين ١٢٠٩ - امام ترمذی، امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا) سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں تشہد (درود) اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوں۔

قعدہ اولیٰ کے ترک پر سجدہ:

عبداللہ بن حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ پس پہلی دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ (قعدے میں) سہو آنے بیٹھے پس لوگ بھی نبی رحمت ﷺ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے (اور آخری قعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا) اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے (تو) رسول اللہ ﷺ نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کئے پھر سلام پھیرا۔ (بخاری، الاذان باب: من لم ير التشهد الاول واجبا ٨٢٩، ومسلم، المساجد، باب السهو في الصلاة: ٥٧٠)

منغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی دو رکعتوں کے بعد (تشہد پڑھے بغیر) کھڑا ہونے لگے اور ابھی پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے لیکن اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا تو پھر نہ بیٹھے البتہ سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے ادا کرے“۔

(أبو داود: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس: ١٠٣٦)۔

نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر چکنے کے بعد سجدہ:

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعات پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی خرباق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گئے اور آپ کے سہو کا ذکر کیا تو آپ ﷺ تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے۔ اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے۔ تو پھر آپ ﷺ نے ایک رکعت اور پڑھائی۔ پھر سلام پھیرا اور دو سجدے کئے۔ پھر سلام پھیرا۔ (مسلم، المساجد، باب السهو في الصلاة: ٥٧٤)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، بعض صحابہ (نماز پڑھ کر) مسجد سے باہر آگئے اور کہنے لگے کہ نماز کم ہو گئی، ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ کیا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی، آپ نے فرمایا: نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے، پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں! پھر آپ آگے بڑھے اور چھوٹی ہوئی نماز پڑھی پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا“ (بخاری: ۴۸۲، مسلم: ۵۷۳)۔

جو شخص چار رکعت کی جگہ تین پڑھ کر سلام پھیر دے پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تین رکعت پڑھی ہیں تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ ایک رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

چار کی جگہ پانچ رکعات پڑھنے پر سجدہ:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز (سہواً) پانچ رکعات پڑھائی آپ سے پوچھا گیا: کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ”آپ نے ظہر کی پانچ رکعات پڑھائی ہیں“ آپ قبلہ رخ ہوئے اور دو سجدے کئے پھر سلام پھیرا اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا یا کرو“۔

(بخاری: الصلوة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ۴۰۱، مسلم: المساجد، باب السهو في الصلاة، ۵۷۲)

سجدہ سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدے کرنا اور پھر التحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ترمذی (۳۹۵) کی روایت کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے شاذ کہا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا سہو کے سجدوں کے بعد تشهد ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تشهد کا ذکر نہیں ہے (بخاری: ۱۲۲۸)۔

نماز کے بعد مسنون اذکار

(۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کا ختم ہونا تکبیر (اللہ اکبر کی آواز) سے پہچان لیتا تھا۔

(بخاری، الاذان باب الذکر بعد الصلاة: ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳)

یعنی نبی رحمت ﷺ فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے (اللہ اکبر) کہنا چاہئے۔

(۲) ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنی نماز ختم کرتے تو فرماتے: "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ".

"میں اللہ سے (گناہوں کی) بخشش چاہتا ہوں" (تین مرتبہ).

"اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ".

"یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اے بزرگی اور عزت والے تو

بڑا ہی بابرکت ہے" (مسلم، المساجد، باب استحباب الذکر بعد الصلاة: ۵۹۱)

تمہیہ: دعائے رسول ﷺ میں اضافہ:

جس طرح دعائے اذان میں لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے۔ وہ زیادتی ملاحظہ ہو (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ) رسول اللہ ﷺ کے الفاظ ہیں۔ آگے (وَالَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ) کا اضافہ کر رکھا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور اخیر میں رسول اللہ ﷺ کے الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعائیہ جملے بڑھا کر حدیث رسول ﷺ میں زیادتی کی ہوئی ہے۔ معاذ اللہ! کیا آپ یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے جس کی تکمیل امتیوں نے کی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں کیا خرابی ہے ان کا ترجمہ بہت

اچھا ہے آخر دعائی ہے اور اللہ ہی کے آگے ہے؟ گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے مالک سے کرے جو جملے چاہے دعا میں استعمال کرنے کوئی حرج نہیں۔ مگر حدیث رسول ﷺ میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنے ناجائز ہیں ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی۔

(۳) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر (فرض) نماز کے بعد یہ (ذکر) پڑھنا نہ چھوڑنا: ”اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“
 ”اے میرے رب! ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر“ (ابوداؤد)

الوتر: باب فی الاستغفار: ۱۰۵۲۲ سے امام حاکم ۱/۲۷۳ امام ذہبی ۱/۱۸۱ ابن خزیمہ ۱/۱۸۱ ابن حبان اور امام نووی نے صحیح کہا
 (۴) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“.
 ”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ! تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں اور دولت مند کو (اس کی) دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی“.

(بخاری: الاذان باب الذكر بعد الصلاة ۸۴۴ و مسلم: المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة ۵۹۳)
 (۵) عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ“

وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ“.

”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں اور ہم (صرف) اسی کی عبادت کرتے ہیں ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے (یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں)“ اسی کے لئے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود (حقیقی) نہیں، ہم (صرف) اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برائے ہیں۔“

(مسلم، المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة: ۵۹۴)

(۶) رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ“.

”اے اللہ! میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر کی طرف پھیر دیا جائے اور میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی

تیری پناہ چاہتا ہوں“ (بخاری، الجهاد والسير باب ما يتعوذ من الجبن ۲۸۲۲)

(۷) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں جو ہر (فرض) نماز کے بعد پڑھے: ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ ”اللہ (ہر عیب سے) پاک ہے“ ۳۳ بار ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ”ساری تعریف اللہ کی ہے“ ۳۳ بار ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ ”اللہ سب سے بڑا ہے“ ۳۳ بار اور ایک بار پڑھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“.

”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لئے ساری

بادشاہت اور اسی کے لئے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔

(مسلم المساجد، باب استحباب الذکر بعد الصلاة: ۵۹۷)

کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص فرض نماز کے بعد (سُبْحَانَ اللَّهِ) ۳۳ بار (الْحَمْدُ لِلَّهِ) ۳۳ بار اور (اللَّهُ أَكْبَرُ) ۳۴ بار کہے گا وہ (ثواب یا بلند درجات سے) محروم نہیں ہوگا۔ (مسلم: ۵۹۶)

(۸) عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں

ہر (فرض) نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ (ابوداؤد، السوتر، باب فی الاستغفار، ۱۰۲۳، نسائی:

۶۸/۳ - ۱۰۱۳۳۶، امام حاکم ۱/۲۵۳، ہیثمی، ابن خزیمہ اور ابن حبان (۲۳۴۷) نے صحیح کہا)

معوذات (اللہ کی پناہ میں دینے والی سورتیں) یہ ان سورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں ﴿قُلْ اَعُوذُ﴾ کا لفظ ہے۔ انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آخری دوسورتیں۔

(۹) ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز کا

سلام پھیرتے تو کہتے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا“.

”اے اللہ! میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول کیے گئے عمل کا سوال کرتا

ہوں“ (ابن ماجہ: إقامة الصلاة، باب: ما يقال بعد التسليم: ۹۲۵).

(۱۰) عمارہ بن شہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے

مغرب کی نماز کے بعد دس بار یہ الفاظ کہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“.

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جو صبح تک شیطان مردود سے اس کی

حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے، اور دس ہلاک کرنے والے گناہ

اس سے دور کرتا ہے اس کے لیے دس مومن غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہے (ترمذی: الدعوات: ۳۵۳۴).

(۱۱) ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی“ (نسائی فی عمل الیوم والليلة ۱۰۰۔ اسے ابن حبان اور منذری نے صحیح کہا)

مطلب یہ ہے کہ آیۃ الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔

آیۃ الکرسی:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے۔ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ وہ اونگھتا ہے نہ سوتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس (کسی کی) سفارش کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہو گا۔ اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے (معلوم نہیں کر سکتے) مگر وہ جتنا چاہتا ہے۔ (اتنا علم جسے چاہے دے دیتا ہے) اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے۔

(اللہ جو ساری کائنات کی حفاظت کر سکتا ہے کیا وہ ایک انسان یا اس کی کار کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے پھر وہ اپنی حفاظت کے لئے جائز اسباب کے بجائے شریک اسباب کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس مقصد کے لئے مختلف کڑے اور انگوٹھیاں کیوں پہنتا ہے؟ دھاگے کیوں باندھتا ہے؟ اپنی گاڑی پر جوتے یا چپتھڑے کیوں لٹکاتا ہے؟ اے اللہ کے بندو! آیت الکرسی پڑھو، حفاظت میں رہو گے، یقیناً اللہ کی حفاظت ہی بہترین حفاظت ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ (ع، ر)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات کو سوتے وقت آیۃ الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لئے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور طلوع فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ (نسائی، فی عمل الیوم والليلة (۹۵۹) ابن خزیمہ حدیث ۲۳۲۳ نے اسے صحیح کہا)

فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا:

فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال رہے پانچوں وقت نمازیں پڑھائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتدا میں نمازیں پڑھیں مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے۔ تو یہ اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے۔

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کہتے ہیں اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سختی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے“ (ابن ماجہ: الدعاء، باب: رفع الیدین فی الدعاء: ۳۸۶۵)۔

امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر علیہ السلام اور بہت سے علماء نے فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کے استعمال میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے“ (ابوداؤد، الوتر، باب الدعاء، حدیث: ۱۴۸۰۹۶، ابن ماجہ: الدعاء: ۳۸۶۴، اسے حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا)

اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اللہ

تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ (ابن السنی ۱۳۸)

اس کی سند میں:

(الف) اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے۔

(ب) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ (اس کے ایک اور راوی) عبدالعزیز بن عبدالرحمن کی نسیب سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔

(ج) نسیب کا انس ذی اللہ سے سننا معلوم نہیں۔

(د) علاوہ ازیں اس روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(۲) یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں

ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ (فتاویٰ نذیریہ)

اس حدیث کی سند حسن ہے مگر مولانا عبید اللہ رحمانی لکھتے ہیں:

”کتاب احادیث کے اندر اصل حدیث میں (وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا) دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ کے الفاظ موجود نہیں، علاوہ ازیں اس میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے۔

(کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ اس سلسلہ میں درج ذیل امور قابل

غور ہیں:

(۱) ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا مستقل عبادت ہے جو کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے البتہ جن مواقع پر

اسکا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے ان کو ترجیح دی جائے گی۔

(۲) جو عبادت ہر وقت جائز ہو اگر آپ اپنی سہولت کے لئے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا

چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے ارشاد نبوی ہے: ”اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی

جائے اگرچہ تھوڑا ہو“ (مسلم: صلوٰۃ المسافرین، باب: فضیلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ/ حدیث ۷۸۲)

لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ تمام اوقات کو چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے

مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے؟ مثلاً اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف سورتیں پڑھتے ہیں تو یہ جائز عمل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینی شروع کر دے ”کہ تمام اہل اسلام روزانہ نماز فجر کے بعد بیس مرتبہ سورۃ القمر پڑھا کریں“ اس کا یہ یہ ثواب ہے، پھر اس کے حلقہ اثر میں آنے والے مسلمان واقعتاً اس کی پابندی شروع کر دیں تو ان کا یہ عمل محتاج دلیل بن جائے گا، اگر شرعی دلیل میں اس کی صراحت آجائے تو سنت ہوگا ورنہ بدعت۔

(۳) جو عبادت ہر وقت جائز ہو اگر آپ اسے کسی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً یہ معلوم کر لیں کہ کہیں اس موقع کے لئے شریعت نے کوئی فرض عائد کیا ہے تو پھر فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطعاً جائز نہیں مثلاً نماز باجماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی بجائے سنتیں یا نوافل پڑھتا رہے۔ کوئی ورد و وظیفہ دعا یا تلاوت کرتا رہے کیونکہ ان جائز نیکیوں کو مؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے لیکن موقع کے فرض کو بلا وجہ مؤخر کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) اگر اس خاص موقع کے لئے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام کو چھوڑ کر سنت کو ترجیح دی جائے گی۔ اگرچہ سنت فرض نہیں اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے اور اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسے اپنانا ہی حب رسول ﷺ کا تقاضا ہے۔ اور ارشاد پاک ہے: ”جس نے میری سنت کو ناپسند کیا وہ مجھ سے نہیں“ (بخاری، النکاح باب الترغیب فی النکاح، ۵۰۶۳، مسلم: ۱۴۰۱) اس کی مثال فرض نماز کے بعد (لا الہ الا اللہ) کا اجتماعی ورد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ (لا الہ الا اللہ) سب سے افضل ذکر ہے لیکن اسے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں سے ایک وقت ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعد اپنے طور پر (لا الہ الا اللہ) کہہ دیتا ہے تو بالکل جائز ہے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد نبی اکرم ﷺ کا معمول اور سنت کچھ اور ہے تو پھر ہر فرض

نماز کے بعد ہمیشہ (لا الہ الا اللہ) کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی سنت کو ختم کر دیا جائے کیونکہ (لا الہ الا اللہ) کا ورد مؤخر ہو سکتا ہے لیکن نماز کے بعد والے مسنون اذکار اور دعاؤں کو ہمیشہ مؤخر کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے؛ ویسے بھی کورس کی شکل میں بلند آواز سے (لا الہ الا اللہ) کے اجتماعی ورد کی پورے عہد نبوت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

(۵) یاد رکھئے! ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا یہ نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ ہی بعد والے مسنون اذکار کا حصہ ہے۔ اس لئے اس کا دائمی اہتمام کرنا درست نہیں ہے کیونکہ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے اور جب کسی شرعی دلیل کے بغیر دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہوں حتیٰ کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے لگے۔ نیز ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت، ترغیب اور تعلیم دی جائے۔ جو شخص ان عبادتوں کو اس طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے منکر اور گستاخ کے القابات سے نوازا جائے تو آپ راہ سنت سے بھگ جائیں گے کیونکہ جب مختلف عبادتوں کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے گا تو وہ سنت نہیں رہتا، بدعت بن جاتا ہے۔

(۶) بات اصول کی ہے جو کام نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں ضروری بھی ہو اور اسے کرنے کے لئے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو پھر بھی پورے عہد نبوت میں اسے کوئی نہ کرے مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو وہ بلاشبہ بدعت ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ یقیناً نہیں تھی؛ پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دین بھی ہو اور عہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے یا اسے کیا گیا ہو مگر مقبول احادیث کے وسیع ذخیرے میں وہ کسی کو کہیں نظر نہ آئے۔

(۷) انسان فطرتاً سہولت پسند ہے؛ اسے مسنون دعائیں یاد کرنا ”گراں“ گزرتا ہے اور چونکہ اس

کی ”مصرفیات“ بھی بہت زیادہ ہیں لہذا وہ فرض نمازوں کے بعد یکسوئی کے ساتھ پانچ چھ منٹ نہیں نکال سکتا لہذا اس سنت سے پہلو بچانے کے لئے اس کا متبادل ایجاد کر لیا گیا یعنی ”مولوی صاحب سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائیں چند مسنون و غیر مسنون الفاظ پر مشتمل چھوٹے چھوٹے جملے بولیں اور منہ پر ہاتھ پھیر کر تمام نمازیوں کو ”فارغ“ کر دیں جس کے بعد وہ سب (مسنون اذکار پڑھے بغیر) اٹھ کھڑے ہوں۔“

درحقیقت یہ دعائیں رسم ہے جو انتہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے اور اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے۔ افسوس کہ لوگوں کو بدعتوں پر عمل کرنے کے لئے تو بڑا وقت مل جاتا ہے مگر سنت کو اپنانے کے لئے وقت نہیں ملتا؛ جو شخص بدعت کی تردید کرے اسے سرے سے دعا ہی کا منکر بنا دیا جاتا ہے جبکہ سنت کا تارک اہل السنة والجماعة !!!

(۸) فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعاؤں کو چھوڑ کر ان کے متبادل کے طور پر (لا الہ الا اللہ) کے اجتماعی ورد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنے کو اس لیے بھی رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن جائیں۔ کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل و احکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے! اسلام کا حکم کیا ہے! فرقہ واریت کو مٹایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے؟

خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا فی نفسہ جائز ہے لیکن اس کا ٹکراؤ ایک سنت سے ہو رہا ہے لہذا اسے اپنا معمول نہیں بنانا چاہئے کیونکہ سنت رسول مقبول ﷺ ہی اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر کلمہ گو مسلمان کا معمول، مسلک اور پہچان بنے۔

لہذا ہمیں عموماً انہی اذکار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہئے جن پر ہمارے پیارے نبی رحمت ﷺ اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمیشہ اکتفا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین۔ (ع، ر)

(۳) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے (الادب المفرد للبخاری، اسکی سند بخاری کی شرط پر صحیح ہے)۔



نماز با جماعت

اہمیت:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: جو شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مسلمان ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہئے اور بے شک رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے، ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ اور اگر تم نماز اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے (جماعت سے) پیچھے رہنے والا شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کریم کی سنت چھوڑ دو گے اور اگر نبی کریم کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے، سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ بیمار بھی دو آدمیوں کے

سہارے نماز کے لئے آتا تھا، (مسلم، المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الہدیٰ، ۶۵۴)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اکیلے شخص کی نماز سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنا سنا (27) درجے زیادہ (ثواب) رکھتا ہے“۔

(بخاری، الاذان بافضل صلاة الجماعة، ۶۴۵، مسلم، المساجد باب فضل صلاة الجماعة، ۶۵۰)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں۔ پھر اذان کہلو اور کسی شخص کو امامت کے لئے کہوں پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز (جماعت) میں حاضر نہیں ہوتے“۔

(بخاری، الاذان باب وجوب صلاة الجماعة، ۶۴۴، و مسلم، ۶۵۱)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نابینا شخص (عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ) آئے، انہوں نے

اپنے اندھے ہونے کا عذر پیش کر کے اپنے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی کیونکہ انہیں کوئی مسجد میں لیکر آنے والا نہیں تھا، تو نبی رحمت ﷺ نے ان کو اجازت دے دی جب وہ واپس چلے تو آپ نے بلا کر پوچھا: اذان سنتے ہو؟ عبد اللہ نے کہا۔ جی ہاں! آپ نے فرمایا: ”تو پھر نماز میں حاضر ہو“ (مسلم، المساجد باب فضل الصلاة الجماعة ۶۵۳)

بھائیو سوچو! نابینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ مل سکی اور آنکھوں والے جو اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں جاتے قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟

(۲) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لئے بغیر کسی عذر کے نہ پہنچے (اور گھر میں نماز پڑھ لے) تو اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی“ (ابن ماجہ المساجد، باب التغلیظ فی التخلف عن الجماعة: ۷۹۳)

(۳) ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس بستی یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے پس جماعت کو لازم پکڑو“۔ (ابوداؤد، الصلاة، باب فی التشدید فی ترک الجماعة، ۱۵۴۷ سے امام حاکم، ۱/۱۲۳۶، خزیمہ، ابن حبان، ذہبی اور امام نووی نے صحیح کہا)

عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو“۔ (بخاری، الاذان باب استفذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد، ۸۷۳، و مسلم، الصلاة، باب خروج النساء الى المساجد ۴۴۲)۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا ہر ممکن انتظام ہونا چاہئے، واللہ اعلم [ع، ر] عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنی عورتوں کو (نماز پڑھنے کے لیے) مسجد آنے سے منع نہ کرو اگرچہ ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں“۔ (ابوداؤد، الصلاة،

باب فی خروج النساء الی المسجد، ۵۶۷ امام حاکم، ۲۰۹/۱ امام ابن خزیمہ، ۱۶۸۳ اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اس کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔“

(ابوداؤد، الصلاة، باب التشدید فی ذلك، ۵۷۰ اسے امام حاکم، ۱۲۰۹ بن خزیمہ، ۱۶۸۸ اور امام ذہبی نے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں آنا چاہے وہ خوشبو نہ لگائے۔

(مسلم، الصلاة، باب خروج النساء الی المساجد حدیث ۴۴۳)

مقصد یہ ہے کہ مسجد جانے والی خاتون ہر اس کام سے پرہیز کرے جس سے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن سکتی ہو۔ (ع، ر)

صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم:

قرآن حکیم میں ہے: ﴿وَأَقِمْوا الصَّلَاةَ﴾ ”اور نماز قائم کرو“ (البقرة: ۴۳)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی صفوں کو برابر کرو بلاشبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم

کرنے میں داخل ہے“ (بخاری: ۷۲۳ و مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف، ۴۳۳)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں

سے ہے“ (بخاری، الاذان، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، ۷۲۲، مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف، ۴۳۵)

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو (ایسا) برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں۔ یہاں تک کہ ہم نے نبی رحمت ﷺ سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ (جماعت کے لئے) کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا۔ پس فرمایا: ”اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔“

(بخاری: الأذان، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة: ۷۱۷، مسلم: ۴۳۶)

مذکورہ حدیث کی رو سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اقامت ہو چکنے کے بعد جب صفیں سیدھی درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو تکبیر اولیٰ کہنی چاہئے۔
خبردار! صفیں ٹیڑھی نہ ہوں کہ صفوں کا ٹیڑھا پن باہمی پھوٹ دلوں کے اختلاف اور باطنی کدورت کا موجب ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو“ (یعنی دو صفوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑو) اور گردنیں برابر رکھو۔ (یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہوؤ کہ گردنیں برابر ہوں)۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں جو صفوں کے شکافوں میں داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے“۔

(ابو داؤد 'الصلاة' باب تسوية الصفوف '۶۶۷۔ اسے امام ابن حبان (۳۸۷) اور ابن خزیمہ (۱۵۴۵) نے صحیح کہا)
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا: ”لوگو! اپنی صفیں سیدھی کرو۔ لوگو! اپنی صفیں درست کرو۔ لوگو! اپنی صفیں برابر کرو۔ سنو! اللہ کی قسم اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا“ (ابو داؤد 'الصلاة' باب تسوية الصفوف '۶۶۲۔ ابن حبان (۳۹۶) نے اسے صحیح کہا)

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صفوں کو سیدھا کرو اور آپس میں نزدیک نزدیک کھڑے ہو تحقیق میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں“ (یہ آپ کا معجزہ تھا) انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص (صفوں میں) اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صف کے اندر آتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے تھے۔ ”آگے پیچھے مت ہوؤ۔ (ورنہ) تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے“ اور فرماتے تھے: ”تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے (رحمت کی) دعا کرتے ہیں“۔

(ابوداؤد؛ ۶۶۴۔ مستدرک حاکم ۱/۵۷۱، امام ابن حبان (۶) امام ابن خزیمہ اور امام نووی نے اسے صحیح کہا)

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو برابر کرتے تھے جب صفیں برابر ہو جاتیں تو (پھر) آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ (ابو داؤد؛ ۶۶۵)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صفوں کو قائم کرو؛ کندھے برابر کرو (صفوں کے اندر) ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے (اپنی رحمت سے) ملائے گا، اور جو صف کو کاٹے گا اللہ بھی اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے گا“ (ابو داؤد؛ ۶۶۶۔ اسے امام حاکم/۱۲۱۳، امام ابن خزیمہ حدیث ۱۱۵۳۹، امام ذہبی اور نووی نے صحیح کہا)

اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لئے کوئی تم کو آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ۔ اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف کو ملاؤ اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ صف کے اندر (جان بوجھ کر) ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کو کاٹتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ مقتدی کو امام کی طرف ملنا چاہئے اگر دوسرا ساتھی نہیں ملتا تو وہی گناہ گار ہوگا دونوں طرف ملنے کی کوشش میں ٹانگیں بہت زیادہ کھولنا درست نہیں؛ صرف امام کی طرف ملنا چاہئے۔

صفوں کی ترتیب:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوگوں کو نماز کے لیے جلدی آنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اگر انہیں عشا اور صبح کی نماز (باجماعت) کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی (مسجد میں) آئیں اور اگر انہیں پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرعہ ڈالیں (کہ کون پہلی صف میں کھڑا ہو)“ (بخاری: الأذان، باب: الصف الأول: ۷۲۱، مسلم: ۴۳۷)۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پہلے اول صف کو پورا کرو۔ پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے“۔ (ابوداؤد: الصلاة باب تسوية الصفوف ۶۷۱ سے امام ابن خزیمہ حدیث ۱۵۳۶۔ اور امام ابن حبان حدیث ۳۹۰ نے صحیح کہا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مردوں کی صفوں میں (ثواب کے لحاظ سے) سب سے بہتر اول صف ہے۔ اور سب سے بری آخری صف ہے اور عورتوں کی صفوں میں سے سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے“۔ (مسلم: الصلاة باب تسوية الصفوف حدیث ۴۴۰)

امام نووی فرماتے ہیں: ”یہ تب ہے جب خواتین بھی مردوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں، کیونکہ اگر مرد آخری صف میں کھڑے ہوں اور ان کے متصل بعد خواتین کھڑی ہوں تو ان کا خیال ایک دوسرے کی طرف جاسکتا ہے۔ لیکن اگر مرد پہلی صفوں میں ہوں اور خواتین آخری صفوں میں ہوں جبکہ درمیان میں بچے ہوں تو پھر ایسا امکان نہیں رہے گا“ (ع، ر)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب لوگ (پہلی صف سے) پیچھے ہٹتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو (اپنی رحمت میں) پیچھے ڈال دے گا“ (مسلم: ۴۳۸)



ستونوں کے درمیان صفیں:

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے دور میں (ستونوں کے درمیان صفیں بنانے) سے بچتے تھے۔

(ابوداؤد، الصلاة باب الصفوف بين السوراء، ٦٧٣۔ اسے امام ترمذی نے حسن جبکہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا:

صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا۔

(ابو داؤد، الصلاة باب الرجل يصلی وحده خلف الصف حديث ٦٨٢۔ امام ابن حبان ٥/٥٤٤٥٤٥۔ امام

احمد، اسحاق اور ابن حزم نے اسے صحیح کہا)

اگر صف میں جگہ ہے تو پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی اور اگر صف میں جگہ نہیں ہے تو یہ اضطرابی کیفیت ہوگی ایسی صورت میں اکیلے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے نماز ہو جائے گی کیونکہ اگلی صف میں سے کسی مقتدی کو پیچھے کھینچنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔

امام مالک، احمد، اوزاعی، اسحاق، اور ابو داؤد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ صف سے آدمی نہ کھینچا

جائے۔

علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اس وقت پہنچے جب امام نماز کی حالت میں ہو اور صف میں اسے کہیں کوئی جگہ نہ ملے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ کوئی دوسرا شخص آجائے چاہے وہ سات سال یا اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو پھر اس کے ساتھ صف بنا لے ورنہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے۔

صف بندی کے مراتب:

ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ (اور) وہ لوگ جو بالغ اور (دینی اعتبار سے) عقل مند ہیں صف میں میرے قریب رہیں، پھر جوان سے قریب ہیں، پھر جوان سے قریب ہیں“ (مسلم، الصلاة، باب تسوية الصفوف، حدیث ۴۳۲)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کی جماعت کرائی، میں اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی۔ (بخاری، الاذان باب المرأة وحدها تكون صفا، ۷۲۷۔

مسلم، المساجد، باب حوازی الجماعة فی النافلة، ۶۵۸)۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاتون بھی پیچھے نماز میں کھڑی ہو جائے تو اسے صف شمار کیا جائے گا۔ (ع، ر)

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے گھر میں، میں میری والدہ اور میری خالہ تھیں۔ آپ نے ہمیں نفل باجماعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا اور عورتوں کو ہمارے پیچھے۔ (مسلم، المساجد: ۴۴۰)



امامت کا بیان

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کا امام وہ ہونا چاہئے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح (صحیح پڑھنا) جانتا ہو اور اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ (یعنی سب سے زیادہ احکام اور مسائل کی حدیثیں جانتا ہو) پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے (مدینہ کی طرف) ہجرت کی۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ اور (بلا اجازت) کوئی شخص کسی کی جگہ امامت نہ کرائے اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے“ (مسلم، المساجد، باب من احق بالامامة؟ ۶۷۳)

نابالغ بچے اور نابینا کی امامت:

اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو تو اسے امام بنایا جاسکتا ہے۔

عمر و بن سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا مجھے امام بنایا گیا حالانکہ میری عمر سات سال تھی۔ (بخاری، المغازی، باب: من شهد الفتح ۴۳۰۲)

اندھے کو امام بنانا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا تھا۔ حالانکہ وہ نابینا تھے۔ (ابوداؤد، الصلاة، باب امامة الاعمى، ۵۹۵ امام ابن حبان (۳۷۰) نے اسے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی:

۱- وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو جب تک واپس نہ آجائے.

۲- وہ عورت جس کا خاوند ناراض ہو لیکن وہ رات بھر سوتی رہے.

۳- وہ آدمی جو لوگوں کی امامت کرائے جبکہ لوگ اسے (اس کی بدعات، جہالت یا فسق کی

بنا پر) ناپسند کرتے ہوں“ (ترمذی: الصلاة، باب: ما جاء فی من أم قوماء وهم کارهون: ۳۶۰).

نماز میں تخفیف:

انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی سی بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ جب آپ (عورتوں کی صف میں) بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔

(بخاری، الاذان باب من احف الصلاة عند بقاء الصبی، ۷۰۸، مسلم: ۴۶۹)

ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر (عورتوں کی صف میں) بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز میں کمی کر دیتا ہوں (ہلکی پڑھتا ہوں) کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی“ (بخاری، ۷۰۷)

لمبی نماز پر نبی کریم ﷺ کا غصہ:

ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم میں صبح کی نماز (جماعت میں) اس وجہ سے نہیں آتا کہ فلاں شخص نماز کو لمبا کرتے ہیں ابومسعود نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کسی وعظ میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا (لمبی نماز پڑھانے والوں پر) دیکھا۔ آپ نے فرمایا: ”تم (لمبی نمازیں پڑھا کر) لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو (سنو) جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ اس لئے کہ ان (مقتدیوں) میں ضعیف بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔“ (بخاری، الاذان باب تخفیف الامام

فی القيام وتمام الركوع والسجود، ۷۰۲، و مسلم، الصلاة، باب امر الأئمة بتخفيف الصلاة فی تمام: ۴۶۶)

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی آخری وصیت یہ تھی: ”جب تم لوگوں کی امامت کرو تو ان کو نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر چاہو لمبی پڑھو“

(مسلم ۴۶۸)

ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع، سجود، قوے اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے۔ واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور طمانیت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کو نامناسب حد تک تیز کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قراءت میں اختصار کیا جائے۔ مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو“ (مسلم، صلاة المسافرين، باب: افضل الصلاة طول القنوت: ۷۵۶)

نماز کی طرف سکون سے آنا:

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا: ”تم کیا کر رہے تھے؟“ انہوں نے عرض کی ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو۔ جب تم نماز کو آؤ تو آرام سے آؤ جو نماز تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو بعد میں پورا کرو“۔

(مسلم، المساجد، باب استحباب اتیان الصلاة بوقار و سكينۃ ۶۰۳)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب فرض نماز کی تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون سے آؤ جو ملے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو کیونکہ جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو“ (مسلم ۶۰۲)

اماموں پر وبال:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اماموں نے نماز اچھی طرح (ارکان کی تعدیل اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ) پڑھائی تو تمہارے لئے بھی ثواب ہے اور ان کیلئے بھی ثواب ہے اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی (یعنی رکوع و سجود کی عدم طمانیت اور قوے جلسے کے فقدان سے نماز پڑھائی) تو تمہارے (مقتدیوں) کے لئے (تو) ثواب ہے اور

ان کے لئے وبال ہے“ (بخاری: الاذان باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه ٦٩٤)

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ ہے خواہ اس نے یہ فعل ارادتا کیا ہو یا لاعلمی کی بنا پر“.

فاسق کو امامت سے ہٹانا:

اگر کسی کو مسجد میں امام مقرر کرنے کا اختیار ہو تو وہ فاسق کو امامت سے ہٹا سکتا ہے۔

ایک صحابی اپنی قوم کی امامت کرواتے تھے ایک دفعہ اس نے قبلہ کی طرف تھوکا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ”یہ تمہاری امامت نہ کرے“ پھر اس نے امامت کرنی چاہی تو اسے روک دیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: ”ہاں! تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی“ (ابو داؤد: الصلاة، باب: فی کراہیۃ البزاق فی المسجد: ٤٨١).

اور اگر امام کے عقیدہ میں شرک اکبر یا کفر اکبر ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کی جائے گی۔

اگر امام مستور الحال ہے یعنی اس کے عقائد کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے ادا کی گئی نماز درست ہے۔

کسی عذر کے سبب مقتدی امام کے پیچھے نماز ختم کر سکتا ہے:

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پانی اٹھانے والے دو اونٹ لے کر آیا، رات اندھیری ہو گئی تھی، اس نے معاذ کو (عشا کی) نماز پڑھتے ہوئے پایا تو اس نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور نماز میں شریک ہو گیا، معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ شروع کی اس نے سلام پھیرا اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور عرض کی اے اللہ کے رسول! ہم محنت کرنے والی قوم ہیں، معاذ پہلے آپ کے ساتھ عشا کی نماز پڑھتا ہے پھر (تاخیر کے ساتھ)

ہمارے پاس آتا ہے پھر اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، آپ نے معاذ سے فرمایا: ”اے معاذ! کیا تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے؟ کیا تو لوگوں کو نفرت دلاتا اور فتنہ کھڑا کرتا ہے، آپ نے تین بار فرمایا“ (بخاری: ۷۰۱، مسلم: ۴۶۵)۔

نماز پڑھا کر امام مقتدیوں کی طرف منہ پھیرے:

سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ”جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے۔

(بخاری: الاذان، باب يستقبل الامام الناس اذا سلم، ۸۴۵، مسلم: الرؤيا، باب: روى النبي: ۲۲۷۵)

انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اکثر اپنی دہنی طرف سے مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مسلم: صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، ۷۰۸)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم اپنی نماز میں سے صرف دائیں طرف سے پھر کر شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو۔ تحقیق میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ اپنے بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے۔ (بخاری: الاذان، باب الافتال والانصراف عن اليمين والشمال، ۸۵۲، مسلم: صلاة المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، ۷۰۸)

معلوم ہوا کہ امام کو پھرنے کے لئے صرف ایک طرف مقرر نہیں کر لینی چاہئے۔ بلکہ کبھی دائیں طرف سے پھرا کرے کبھی بائیں طرف سے مگر اکثر دائیں طرف سے مڑنا چاہئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دائیں طرف والی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں“ (أبو داود: ۶۷۶)۔

براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تا کہ آپ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں۔

(مسلم: صلاة المسافرين، باب استحباب اليمين امام حديث ۷۰۹)

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سلام پھیرتے تو عورتیں سلام پھیرتے ہی کھڑی ہو کر چلی جاتیں اور آپ صحابہ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے رہتے پھر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور آپ کے اٹھنے سے پہلے عورتیں گھروں میں داخل ہو چکی ہوتی تھیں [بخاری: الأذان، باب: التسليم: ۸۳۷، ۸۵۰]۔

امام کی اقتداء کے احکام:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”امام سے پہل نہ کرو! جب وہ تکبیر کہے، اس کے بعد تم تکبیر کہو۔ اور جب امام (وَلَا الضَّالِّينَ) کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو۔ اور جب امام رکوع کرے تم اس کے بعد رکوع کرو اور جب امام (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہے تو تم (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) کہو“۔

(مسلم: الصلاة: باب: النهی عن مبادرة الإمام بالتكبير: ۴۱۵)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک گھوڑے سے گر پڑے، آپ کی دہنی پہلو چھل گئی تو آپ نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا: امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو“ [بخاری: ۶۸۹، مسلم: ۴۱۱]۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ حمیدی نے کہا آپ کا یہ فرمان کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو شروع کی بیماری میں تھا، موت کی آخری بیماری میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، اور آپ کا جو فعل آخری ہو اسی کو لینا چاہیے“ [بخاری: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به: ۶۸۹]۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پس جب آپ (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہتے (تو ہم آپ کے پیچھے قوے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر) ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ (سجدہ میں جانے کے لئے) نہ جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے“ (بخاری، الاذان باب متى يسجد من خلف الامام؟ ۶۹۰، و مسلم، الصلاة، باب متابعة الامام والعمل بعده، ۴۷۴)

حضرات! غور کیا آپ نے! کہ جب تک رسول اللہ ﷺ قوے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے اس وقت تک تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے تھے۔ کوئی پیٹھ تک نہ جھکاتا تھا اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قوے سے سجدہ میں آنے کے لئے ابھی (اللَّهُ أَكْبَرُ) ہی کہتا ہے تو مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی سجدے میں پہنچ جاتے ہیں نبی رحمت ﷺ فرماتے ہیں ”امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ اور امام سے پہلے کھڑے ہونہ پہلے سلام پھیرو“ (مسلم، الصلاة، باب تحريم سبق الامام بر كوع او سجود و نحوهما، حديث ۴۲۶)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی امام سے پہلے سجدہ سے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا وہ نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح کر دے“۔

(بخاری، الاذان باب اثم من رفع راسه قبل الامام، ۶۹۱، و مسلم، ۴۲۷)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو تو مرد مقتدی سبحان اللہ کہیں اور تالی بجانا عورتوں کے لئے ہے“ (بخاری، العمل فى الصلاة، باب التصفيق للنساء، ۱۲۰۳۔ مسلم، الصلاة، باب تسييح الرجال و تصفيق المرأة اذا نابهما شيء فى الصلاة، ۴۲۲)

عورت سبحان اللہ کہنے کی بجائے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارے گی۔ واللہ اعلم (ع، ر)

مسور بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے قراءت میں قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نے کہا: آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی تو آپ نے فرمایا: ”تو

نے مجھے یاد کیوں نہ کروایا؟“۔

(ابوداؤد، الصلاة، باب الفتح علی الامام فی الصلاة، حدیث ۹۰۷۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا)

عورت کی امامت:

پہلی صف کے وسط میں (دوسری عورتوں کے ساتھ برابر) کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔

ام ورقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں“ (ابوداؤد، الصلاة، باب امامة النساء، ۵۹۲۔ اسے ابن خزیمہ (۱۶۷) نے صحیح کہا)

ام سلمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی امامت کراتیں اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔

(ابن ابی شیبہ، ۸۹/۲۔ امام ابن حزم نے اسے صحیح کہا)

امامت کے چند مسائل:

۱- ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: ”رسول اللہ ﷺ نے اپنے حجرہ میں (رمضان المبارک میں) رات کی نماز پڑھی اور حجرہ کی دیوار چھوٹی تھی لوگوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے حجرہ سے باہر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی“۔

(بخاری: الأذان، باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة: ۷۲۹)۔

معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار آ جائے تو کوئی حرج نہیں، بعض مساجد میں جمعہ کے دن بھیڑ ہونے کی بنا پر مسجد سے باہر سڑک پر نماز ادا کی جاتی ہے اگر مقتدی تکبیر کی آواز سن رہے ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۲- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رات کی نماز میں نبی رحمت ﷺ کے بائیں طرف کھڑا ہوا۔ آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ (بخاری: الأذان

باب إذا قام الرجل عن يسار الامام ۷۲۶، مسلم، صلاة المسافرين، باب صلوة النبي ﷺ و دعائه بالليل ۷۶۳)۔

اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کی جماعت میں تکبیر (اقامت) نہیں ہے اور اگر اکیلے آدمی نے نماز شروع کی پھر دوسرا آ کر اس کے ساتھ آ ملا تو پہلا نمازی امامت کی نیت کر کے نماز جاری رکھے۔ واللہ اعلم۔ [ع، ر]۔

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی اکرم ﷺ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ (مسلم: صلوة المسافرین، باب صلوة النبی ﷺ ودعائه باللیل، ۷۶۶)

۳۔ رسول اللہ ﷺ جب نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کو دیکھ کر تکبیر کہتے اور آپ کے (حجرہ سے) نکلنے کے بعد لوگ صف بندی کرتے تھے۔ (مسلم: المساجد، باب متى يقوم الناس للصلوة، ۶۰۶)

۴۔ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی۔ ایک دن آپ نے تکلیف میں تخفیف پائی تو آپ دو صحابہ رضی اللہ عنہم کا سہارا لیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کر رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ آپ ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی اقتداء کرتے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ (بخاری: الاذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به: ۶۸۷، مسلم: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر: ۴۱۸)

۵۔ جنگ تبوک میں ایک دن رسول اکرم ﷺ رفع حاجت کے لئے گئے آ کر وضو کیا جب پہنچے تو دیکھا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ان کے پیچھے رسول اکرم ﷺ نے ایک رکعت پڑھی۔ عبدالرحمن بن عوف نے دونوں رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر دیکھا تو رسول اللہ ﷺ نماز پوری کرنے کی خاطر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تھے۔ سلام کے بعد فرمایا تم لوگوں نے اچھا کیا۔ تم لوگ وقت مقررہ پر نماز پڑھا کرو۔ (مسلم: الصلاة

باب تقديم الجماعة من يصلي بهم اذا تأخر الامام: ۲۷۴)۔

معلوم ہوا کہ افضل مقتدی بن سکتا ہے۔

۶- معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ (بخاری الاذان باب اذا طول الامام و كان للرجل حاجة فخرج و صلى ۷۰۰ مسلم الصلاة باب القراءة في العشاء ۴۶۵)۔

یہ نماز معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے نفل اور مقتدیوں کے لیے فرض بن جاتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں امام اور مقتدی کی نیت کا مختلف ہونا جائز ہے۔ (ع'ر)

۷- دو آدمیوں کی جماعت:

ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا۔ آپ نماز پڑھا چکے تھے۔ نبی رحمت ﷺ نے پوچھا: ”اس پر کون صدقہ کرے گا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آنے والے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔“

(ابوداؤد الصلاة باب الجمع في المسجد مرتين - ۵۷۴۔ امام ترمذی امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا) معلوم ہوا کہ مسجد میں پہلی جماعت ختم ہونے کے بعد دوسری جماعت قائم کرنا جائز ہے اور جماعت کے لیے دو آدمی کافی ہیں اسی طرح اگر کوئی رمضان میں اس وقت مسجد میں آئے جب تراویح کی نماز شروع ہو چکی ہو اور اس نے عشا کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ عشاء کی نیت سے جماعت میں شامل ہو جائے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی رکعتیں پوری کر لے تاکہ اس طرح اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔



مساجد کے احکام

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے لہذا جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لو“ (بخاری: التیمم: ۳۳۵، مسلم: ۵۲۱)۔

یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خاص انعام ہے، اس امت سے قبل کسی بھی امت کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ نماز کا وقت آنے پر وہ جس جگہ بھی چاہیں نماز ادا کر لیں سوائے ان جگہوں کے جہاں منع کیا گیا ہے یعنی قبرستان، حمام اور اونٹوں کا باڑہ۔

مسجد کی فضیلت :

عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص مسجد بنائے اور اس کا مقصود اللہ کی رضا مندی ہو اللہ اس کے لیے بہشت میں گھر بناتا ہے“۔

(بخاری: الصلاة باب من بنى مسجداً، ۴۵۰، و مسلم: المساجد، باب فضل بناء المساجد و الحث علیہا، ۵۳۳)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور بازار انتہائی ناپسند ہیں“۔

(مسلم: المساجد، باب فضل الجلوس فی مصلا، بعد الصبح و فضل المساجد، ۶۷۱)

مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی دن کے اول حصے

میں یا دن کے آخری حصہ میں مسجد کی طرف جائے اللہ اس کے لیے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے“ (بخاری، الاذان باب فضل من غدا الی المسجد و من راح، ۶۶۲۔ و مسلم، المساجد، باب المشی الی الصلاة تمحی بہ الخطایا: ۶۶۹)

بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین مساجد مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے سفر اختیار نہ کرو“۔

(بخاری: باب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة: ۱۱۸۹، مسلم: ۱۳۹۷)۔

خانہ کعبہ (مسجد الحرام) میں ایک نماز دوسری مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے۔

(ابن ماجہ، اقامة الصلاة، باب ماجاء فی فضل الصلاة فی المسجد الحرام و مسجد النبی ﷺ، ۱۴۰۶)

رسول اللہ نے فرمایا مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے خانہ کعبہ کے۔ (بخاری، فضل الصلوة فی مسجد مکة و المدینة، ۱۱۹۰ و مسلم، الحج، باب فضل الصلاة بمسجدی مکة و المدینة ۱۳۹۴)

سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قبا گیا اور وہاں نماز پڑھی اس کو عمرہ کے برابر اجر ملے گا“۔

(ابن ماجہ: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فی الصلاة فی مسجد قباء: ۱۴۱۲)۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ہر ہفتہ کو مسجد قبا میں پیدل یا سوار ہو کر جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے (بخاری: ۱۱۹۴، مسلم: ۱۳۹۹)۔

تحیۃ المسجد (مسجد کا تحفہ):

ابوقادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت (تحیۃ المسجد کے طور پر) پڑھو“ (بخاری: الصلوة، باب: اذا دخل المسجد فلیرکع

ر کعتین ۴۴۴ . و مسلم: صلاة المسافرين، باب: استحباب تحية المسجد بر کعتين: (۷۱۴)

ابوقحادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسجد میں گیا اور رسول اللہ ﷺ لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جب تک دو رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ (مسلم: ۷۱۴)

پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ:

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے“۔

(بخاری: الأذان، باب: ما جاء في الثوم: ۸۵۵، مسلم: ۵۶۴)

ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی ان خبیث درختوں (لہسن اور پیاز) کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو ان کو پکا کر ان کی بو مار لو۔“ کیونکہ اس سے فرشتوں کو ایذا پہنچتی ہے اور آدمیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ بولے لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا؟ آپ نے فرمایا لوگو میں وہ چیز حرام نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے لیکن لہسن کی بو مجھے بری لگتی ہے۔ (مسلم: المساجد، باب: نهي من اكل ثوما او بصلا ۵۶۵)

شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز و لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز و لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے، ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں جب کہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ نہیں“

اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد آنے کی

اجازت دی تھی۔ (ابوداؤد، الاطعمۃ، باب فی اکل الثوم، ۳۸۲۶۔ اسے ابن خزیمہ (۱۶۷۲) اور ابن حبان نے صحیح کہا) مسجد میں تھوکنے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کئے گئے۔ میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنے بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو، (مسلم، المساجد، باب النهی عن البصاق فی المسجد، ۵۵۳)۔

یعنی آج کل مساجد سے تھوک کو پانی یا کپڑے وغیرہ سے صاف کیا جائے گا۔ (ع، ر)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں قبلہ کی دیوار پر بلغم دیکھا آپ لوگوں کے آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے (نماز ہی میں) اس کو کھرج ڈالا، جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا: جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے اس کو چاہئے کہ نماز میں اپنے سامنے بلغم نہ ڈالے۔

(بخاری: الأذان، باب: هل يلتفت لا ينزل به: ۷۵۳، مسلم: ۵۴۷)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت ﷺ نے قبلہ کی طرف مسجد میں بلغم دیکھا، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھرج ڈالا اور آپ کے چہرہ مبارک پر ناخوشگوارگی کے آثار تھے، گویا آپ کو یہ تھوکنے کا سخت ناگوار گزرا، پھر آپ نے فرمایا: ”نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے بیچ میں ہوتا ہے اس لئے اسے چاہئے کہ اپنے سامنے نہ تھو کے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھو کے، پھر آپ نے اپنی چادر کا کونا لیا اس میں تھوکا اور کپڑے کو مل دیا اور فرمایا کہ ایسا کرے“ (بخاری: الصلوٰۃ، باب حث البراق باليد من المسجد: ۴۰۵، مسلم: ۵۵۱)۔

اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں آجکل تھوکنے کا چادر کے پلو میں تھوک کر مل دے۔

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”مسجد میں تھوکنے کا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر

دبا دینا ہے“ (بخاری: الصلوٰۃ، باب كفارة البزاق في المسجد، ۴۱۵، مسلم: ۵۵۲)

مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا:

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم وضو کر کے مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلو تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو بے شک اس وقت تم نماز ہی میں ہوتے ہو“
(ابوداؤد، الصلاة: ماجاء فی الہدی فی المشی الی الصلاة ۵۶۲) اسے امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے۔ اس کی سند حسن ہے/مرعاة)۔

یعنی تمہیں برابر نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔

کعب بن عجرہ سے روایت ہے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو تم نماز ہی کی حالت میں ہو جب تک نماز کا انتظار کر رہے ہو“
(مسند احمد (۴/۲۴۴، ۱۸۳۱۰، اس کی سند جید (قوی) ہے، بلوغ الامانی)۔

انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت نماز ادا کرنے سے پہلے ہے کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں انگلیاں انگلیوں میں ڈالیں [بخاری: ۴۸۲]۔

مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے دو آدمیوں سے کہا (جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے): ”اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تم رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو؟“ (بخاری، الصلوة، باب رفع الصوت فی المساجد: ۴۷۰)

مسجد میں خرید و فروخت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچنا یا خریدنا دیکھو تو کہو:

(لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) ”اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے“۔

(ترمذی، البیوع، باب النهی عن البیع فی المسجد، ۱۳۲۴۔ اسے امام حاکم (۵۶/۳) اور امام ذہبی نے صحیح کہا)۔

اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو:
(لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ).

”اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے“ پس بے شک مسجدیں اس مقصد کے لیے تو نہیں بنائی گئیں“.

(مسلم: المساجد، باب: النهی عن نشد الصالة في المسجد: ۵۶۸).

مسجد میں سونا:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی میں سو جاتے تھے حالانکہ وہ کنوارے
نوجوان تھے۔ (بخاری: الصلوة، باب نوم الرجال في المسجد، ۴۴۰، مسلم: فضائل صحابة، باب: من فضائل
ابن عمر: ۲۴۷۹)

مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بنی حنیفہ کے ایک شخص
ثمامہ بن اثال کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا (حالانکہ وہ اس وقت مشرک تھے)۔

(بخاری: الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، ۴۶۹، مسلم: الجهاد، ۱۷۶۴)

مسجد میں شعر پڑھنا:

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کے پاس سے
گزرے اور حسان شعر پڑھ رہے تھے (عمر رضی اللہ عنہ نے حسان کو غصہ سے دیکھا) حسان کہنے لگے کہ
میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اور تم سے جو افضل ہے یعنی محمد رسول اللہ ﷺ وہاں موجود ہوتے
تھے، پھر حسان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے ابو ہریرہ! تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے
رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا اے حسان تو اللہ کے رسول کی طرف سے کافروں کو
جواب دے اے اللہ! روح القدس سے حسان کی مدد کر، ابو ہریرہ نے جواب دیا بیشک (آپ نے

فرمایا) (بخاری: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة: ۳۲۱۲، مسلم: ۲۴۸۵).

مسجد میں گفتگو کرنا:

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اکثر رسول اللہ ﷺ کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے نکلنے تک مسجد میں بیٹھتے، جب سورج طلوع ہوتا تو آپ (جانے کے لیے) کھڑے ہوتے، ہم (مسجد میں) زمانہ جاہلیت کے معاملات کا ذکر کرتے (گفتگو کے دوران) ہم ہنستے بھی تھے اور مسکراتے بھی۔

(مسلم: المساجد، باب: فضل المجلس في صلاة: ٦٧٠)۔

مسجد جانے کی فضیلت:

ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے گھر سے با وضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے لیے نکلتا ہے پس اس کو حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے“ (ابوداؤد 'الصلاة' باب فضل المشي الى الصلاة: ٥٥٨ - اس کی سند حسن ہے)۔

یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہو جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہ ہوگی خواہ ساری عمر با وضو ہو کر پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے (کم از کم) پچیس درجے زیادہ ہے۔ پس جب وہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں: ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ“ ”اے اللہ! اس پر اپنی رحمت اتار۔ اے اللہ اس کی توبہ قبول کر۔“ جب تک وہ کسی کو ایذا نہیں دیتا یا وہ حدیث نہیں کرتا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا

ہے۔ (بخاری، البيوع، باب ما ذكر في الاسواق، ٢١١٩ - مسلم، المساجد، باب فضل صلاة الجماعة ٦٤٩)

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا: ”اے بنو سلمہ اپنے (موجودہ) گھروں میں ٹھہرے رہو (مسجد کی طرف آتے وقت) تمہارے ہر قدم (کا ثواب) لکھا جاتا ہے“۔

(مسلم، المساجد، باب فضل كثرة الخطا الى المساجد، ٦٦٥)

مسجد کا نمازی اللہ کے سائے میں:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن (حشر میں) اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ (پہلا) عادل حاکم (دوسرا) وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے (تیسرا) وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ (چوتھا) وہ دو شخص جو (صرف) اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ (جب) ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ (پانچواں) وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور (افراط محبت یا خشیت سے) اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ (چھٹا) وہ شخص کہ جسے کسی خاندانی، خوبصورت عورت نے (برائی کے لیے) بلایا۔ (یعنی دعوت گناہ دی) پھر اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (ساتواں) وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا پھر اس کو چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ (یعنی خیرات کو بالکل مخفی رکھتا ہے)۔

(بخاری، الاذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ٦٦٠ و مسلم، الزكاة، باب فضل

مساجد میں خوشبو:

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا: ”مخلوں میں مسجدیں بناؤ۔ (یعنی جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجد بھی بناؤ) اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ“ (ابوداؤد، الصلاة، باب اتخاذ المساجد فی الدور، ۴۵۵۔ ابن ماجہ، المساجد، باب تطہیر المساجد و تطیبہا، ۷۵۸، ۷۵۹۔ اسے امام ابن خزیمہ (۳۹۳) اور ابن حبان (۳۰۶) نے صحیح کہا)

مسجد کے نمازیوں کے لیے خوشخبری:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اندھیروں میں (نماز کے لیے) مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سناؤ“۔

(ابن ماجہ، المساجد، باب المشی الی الصلاة، ۷۸۰۔ امام حاکم (۲۱۲/۱) اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا)

قبرستان اور حمام میں نماز کی ممانعت:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام روئے زمین مسجد ہے (یعنی سب جگہ نماز جائز ہے) سوائے قبرستان اور حمام کے“ (ابوداؤد، الصلاة، باب فی المواضع التي لا تجوز فیها الصلاة، ۴۹۲۔ ترمذی، الصلاة، باب ما جاء ان الارض کلها مسجد الا المقبرة والحمام، ۳۱۷۔ اسے امام حاکم (۲۵۱/۱) امام ابن خزیمہ (۷۹۱) ابن حبان (۳۳۹، ۳۳۸) ذہبی اور ابن حزم نے صحیح کہا)

مسجد کے معنی ہیں سجدے کی جگہ نماز کی جگہ۔ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہوئی تو نماز اور سجدہ کے لیے مسجد (سجدہ کی جگہ) بنانا بھی منع ہوئی۔

مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلنے وقت کی دعا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم مسجد میں داخل ہو تو یہ پڑھو:

(اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ).

”اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے“۔

جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ).
 ”یا اللہ! بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں“.

(مسلم، صلاة المسافرين باب ما يقول اذا دخل المسجد: ۷۱۳).

فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے:
 ”بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
 رَحْمَتِكَ“.

”اللہ کے نام سے (داخل ہوتا ہوں) اور (دعا کرتا ہوں کہ) رسول اللہ ﷺ پر سلامتی
 ہو۔ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے“.

اور جب مسجد سے نکلتے تو فرماتے:
 ”بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
 فَضْلِكَ“.

”اللہ کے نام سے (مسجد سے باہر آتا ہوں) اور (دعا کرتا ہوں کہ) رسول اللہ ﷺ پر
 سلامتی ہو اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل (و کرم) کے دروازے کھول
 دے“ (ابن ماجہ: المساجد، باب: الدعاء عند دخول المسجد: ۱۰۷۷۱، امام ترمذی (۳۱۵) نے حسن بغیرہ کہا).
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسجد میں داخل ہوتے وقت
 اور نکلتے وقت رسول اللہ ﷺ پر سلام کہو“ (ابن ماجہ: المساجد، باب الدعاء عند دخول المسجد: ۷۷۳-
 امام ابن خزیمہ (۴۵۲) اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو
 شیطان کہتا ہے کہ اس نے باقی دن مجھ سے محفوظ کر لیا:

”أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“.

”میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں“ (ابو داؤد، الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، ۴۶۶)

فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے دعا:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب موذن نے صبح کی نماز کے لیے اذان دی تو آپ نماز کے لیے نکلے اور آپ فرما رہے تھے:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيِ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا“.

”اے اللہ! میرے دل، میری زبان، میری سماعت اور میری بصارت کو (ایمان کے نور سے) منور فرما، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں اور بائیں، میرے سامنے اور پیچھے (ہر طرف) نور پھیلا دے، اور میری روح کو نور سے بھر دے اور میری (ہدایت کے) نور کو بڑھا

دے“ (مسلم: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل: ۷۶۳).



نماز کی سنتوں کا بیان

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوا اور نجات پا گیا اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام ہوا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، اگر اس کے فرضوں سے کچھ ناقص ہو تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفل دیکھو اور پھر ان نفلوں سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی اسی طرح اس کے باقی اعمال کا حساب ہوگا“ (أبو داود: الصلاة، باب: قول النبی ﷺ كل صلاة لا

یتمها صاحبها تتم من تطوعه: ۸۶۴، ترمذی: ۴۱۳، نسائی: ۴۶۵).

نفل اور سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں:

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرض نماز کے علاوہ باقی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے“ (بخاری: ۷۳۱، مسلم: ۷۸۱).

عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ نے فرمایا کہ: ”کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے اس کے باوجود فرائض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے“

(ابن ماجہ، إقامة الصلاة، باب ماجاء فی التطوع فی البيت، ۱۳۷۸۔ امام بویہری اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ (نوافل، سنتیں) اپنے گھروں میں پڑھو اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا۔“

(مسلم، صلوة المسافرین، باب استحباب صلوة النافلة فی بیتہ، ۷۷۸)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھو (جیسے قبرستان نماز سے خالی ہوتے ہیں ایسے ہی) اپنے گھروں کو قبرستان نہ

بناؤ“ (بخاری: ۴۳۲، مسلم: ۷۷۷)۔

موکدہ سنتیں: بہشت میں گھر:

ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دن اور رات میں (فرضوں کے علاوہ) بارہ رکعتیں پڑھے اس کے لیے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے۔

(مسلم، صلوٰۃ المسافرین باب فضل السنن الراتبة: ۷۲۸)

عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے نفلوں کا حال دریافت کیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ (ظہر کے فرض) پڑھتے، پھر (گھر میں) داخل ہوتے اور دو رکعت نماز پڑھتے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر (گھر میں) داخل ہوتے اور دو رکعت (سنت) پڑھتے، پھر آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر (گھر میں) داخل ہوتے اور دو رکعت نماز پڑھتے اور رات کو آپ ﷺ نو رکعت (تہجد کی) نماز پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا تھا اور جب صبح نمودار ہوتی تو (نماز فجر سے پہلے) دو رکعت (سنت) پڑھتے۔ (مسلم صلوٰۃ المسافرین، باب جواز النافله قائماً و قاعداً: ۷۳۰)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دس رکعتیں یاد کیں ظہر سے پہلے دو رکعت، دو رکعت ظہر کے بعد، دو رکعت مغرب کے بعد، دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت فجر سے پہلے۔ (بخاری، التہجد، باب الركعتين قبل الظهر: ۱۱۸۰، مسلم، صلاة المسافرین، باب فضل

السنن الراتبة قبل الفرائض و بعدہن: ۷۲۹)

ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت اور ظہر کے بعد چار رکعت کی حفاظت کی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے“۔

(أبو داود: التطوع، باب: الأربع قبل الظهر و بعدہ: ۱۲۶۹)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'رات اور دن کی (نفل) نماز دو دو رکعتیں (پڑھی جاتی) ہیں۔
(ابوداؤد ابواب التطوع، باب فی صلاة النہار، ۱۲۹۵۔ امام ابن خزیمہ (۱۲۱۰) اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا)
معلوم ہوا چار رکعات سنت بھی دو دو کر کے ادا کرنی چاہئیں۔

عصر سے پہلے چار رکعت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'جو شخص عصر سے پہلے چار رکعات (سنت) پڑھے اللہ اس پر
رحمت کرے' (ترمذی، الصلاة، باب ماجاء فی الاربع قبل العصر، ۴۳۰، وابو داؤد، ابواب التطوع، باب
الصلاة قبل العصر، ۱۲۷۱۔ اسے ابن خزیمہ (۱۱۹۳) ابن حبان (۶۱۶) اور نووی نے صحیح کہا)
علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ عصر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے اور دو
رکعت کے بعد تشہد اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے تھے (ترمذی: ۴۲۹، ترمذی نے حسن کہا)۔

مغرب سے پہلے دو رکعتیں:

عبداللہ المزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'مغرب کی (فرض)
نماز سے پہلے نماز پڑھو، آپ نے تین بار فرمایا اور تیسری بار کہا جس کا دل چاہے، یہ اس لیے فرمایا
کہ آپ ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اس کو سنتِ موکدہ بنا لیں'۔

(بخاری: أبواب التہجد، باب: الصلاة قبل المغرب: ۱۱۸۳)۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں موزنِ مغرب کی اذان کہتا، ہم سب ستونوں کی
طرف دوڑتے اور دو رکعتیں پڑھتے۔ لوگ اس کثرت سے دو رکعتیں پڑھتے کہ اجنبی یہ گمان کرتا کہ
مغرب کی جماعت ہو چکی ہے (مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب رکعتین قبل صلاة المغرب، ۸۳۷)

مرشد بن عبداللہ رحمہ اللہ عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا 'کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ابو تمیم
رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھتے ہیں؟ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ ﷺ
کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا: اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ مصروفیت۔

(بخاری، التهجید، باب الصلاة قبل المغرب، ۱۱۸۴)

جمعہ کے بعد کی سنتیں:

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو چار رکعات ادا کرو“

(مسلم، الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، ۸۸۱)

معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد چار رکعات سنتیں پڑھنی چاہئیں اور اگر کوئی دو رکعتیں بھی پڑھے لے تو جائز ہوگا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر آتے اور دو رکعتیں پڑھتے، پھر فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ (بخاری، الجمعة، باب الصلاة

بعد الجمعة و قبلها، ۹۳۷، و مسلم، الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، ۸۸۲)

بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ مسجد میں چار سنتیں (دو دو کر کے) پڑھے اور اگر گھر میں آ کر پڑھے تو دو سنتیں پڑھے۔ (مرعاة المفاتیح)

فجر کی سنتوں کی فضیلت:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”فجر کی دو سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے بہتر ہیں اور مجھے فجر کی دو رکعت (سنتیں) ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں“

(مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، ۷۲۵)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نوافل (سنن) میں سے کسی چیز پر اتنی محافطت اور مداومت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی دو سنتوں پر کرتے تھے (بخاری، التهجید،

باب تعاهد ركعتي الفجر، ۱۱۶۹، مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، ۷۲۴)

رسول اللہ ﷺ جب فجر کی دو سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ (بخاری، الاذان، باب

من انتظر الاقامة، ۶۲۶، مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل و عدد ركعات النبي ﷺ في الليل، ۷۳۶۶)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف میں سے بعض مسجد کی بجائے گھر میں دائیں پہلو لیٹنا مستحب جانتے

تھے کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے یہ ذکر نہیں ملتا کہ آپ مسجد میں دائیں پہلو لیٹتے تھے“ (فتح الباری).

سنتوں کی قضا:

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھیں، میں نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: ”بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبدالقیس کے لوگ (احکام دین سیکھنے کے لیے) آئے تھے ان کے ساتھ (میری مصروفیت نے) مجھے ظہر کے بعد کی دو رکعت سنتوں سے باز رکھا پس یہ وہ دونوں تھیں (جو میں نے عصر کے بعد ادا کی ہیں) (بخاری: السہو: ۱۲۳۳، مسلم: ۸۳۴).

فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں:

اگر آپ ایسے وقت مسجد میں پہنچے کہ جماعت کھڑی ہوگئی ہو اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب نماز کی اقامت (تکبیر) ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی“.

(مسلم: صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المودن في اقامة الصلاة، ۷۱۰)

ایسی صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: ”صبح کی (فرض) نماز دو رکعتیں ہیں (تم نے مزید دو رکعتیں کیسی پڑھی ہیں؟)“ اس شخص نے جواب دیا۔ میں نے دو رکعتیں سنت (جو فرضوں سے پہلے ہیں) نہیں پڑھی تھیں۔ ان کو اب پڑھا ہے۔ (یسن کر) آپ نے فرمایا: ”پھر کوئی حرج نہیں“ (أبو داود: التطوع، باب: من فاتته متى يقضيها:

۱۲۶۷، ابن ماجہ: ۱۱۵۴، ابن خزيمة: ۱۱۱۶۔ اسے ابن حبان (۶۲۳) حاکم (۲۵۵-۲۵۳) اور ذہبی نے صحیح کہا)

ایک شخص مسجد میں آیا، رسول اللہ ﷺ صبح کے فرض پڑھ رہے تھے۔ اس نے مسجد کے

ایک کونے میں دو رکعت سنت پڑھی۔ پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ”تو نے فرض نماز کس کو شمار کیا جو اکیلے پڑھی تھی اس کو یا جو ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھی

ہے؟ (مسلم، صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في نافلة... ۷۱۲)

معلوم ہوا کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کا پڑھنا درست نہیں ہے۔

نفل نماز:

کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے نمازوں کی رکعتوں کو کم کر دیا ہے یعنی فرائض اور سنتیں گن لی ہیں اور نفل چھوڑ دیے ہیں۔ مسلمان بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوافل اپنی خوشی اور مرضی کی عبادت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے نفلوں کو فرضوں کا ضروری اور لازمی ضمیمہ بنا ڈالیں۔ فرضوں کے ساتھ آپ کی نفل عبادت یعنی سنتیں آگئی ہیں جن سے نماز پوری اور مکمل ہوگئی ہے، نوافل ہم ممنوعہ اوقات کے سوا دن اور رات کے سب اوقات میں ادا کر سکتے ہیں۔

عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ مجھے نماز کے متعلق خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا: ”صبح کی نماز پڑھ، پھر سورج طلوع اور اونچا ہونے تک نماز سے رک جا اس لیے کہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھ یقیناً نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سورج کے سیدھا سر پر ہونے کے وقت نماز سے رک جا اس لیے کہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ اس لیے کہ نماز کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پھر نماز عصر پڑھ، پھر اس کے بعد غروب آفتاب تک ٹھہر جا اس لیے کہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس

وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں“ (مسلم: الصلاة، باب: إسلام عمرو بن عبسہ: ۸۳۲)۔



تہجد اور وتر

فضیلت:

ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تہجد ضرور پڑھا کرو؛ کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور (مزید) گناہوں سے بچنے کا سبب ہے“۔

(ابن خزیمہ، حدیث ۱۱۳۵ سے حافظ عراقی نے حسن امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا۔ پھر نماز (تہجد) پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا۔ پھر اس نے (بھی) نماز پڑھی۔ پھر اگر عورت (غلبہ نیند کے باعث) نہ جاگی، تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اور اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی پھر نماز (تہجد) پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا۔ پھر اس نے (بھی) نماز پڑھی۔ اگر خاوند (غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا) تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے“ (ابوداؤد، التطوع باب قیام اللیل، ۱۳۰۸۔ سے امام حاکم (۴۰۹/۱) امام ابن خزیمہ (۱۱۴۸) امام ذہبی اور امام نووی نے صحیح کہا)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل، تہجد کی نماز ہے۔ اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں“ (مسلم، الصیام، باب فضل صوم المحرم، ۱۱۶۳)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی

ہے۔ اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے؛ ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے“ (بخاری، التہجد، باب عقد الشیطان علی قافیۃ الراس اذا لم یصل باللیل، ۱۱۴۲، مسلم، صلاۃ المسافرین، باب الحث علی صلوٰۃ اللیل، ۷۷۶)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے: ”کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کو دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو بخش دوں“ (بخاری، التہجد، باب الدعاء والصلوة من آخر اللیل، ۱۱۴۵۔ مسلم، صلاۃ المسافرین، باب الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل، ۷۵۸)

نبی رحمت ﷺ کا شوق تہجد:

مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے (رات کو تہجد میں) اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوچ گئے۔ آپ سے سوال ہوا: آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ مغفور ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”کیا پھر (جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے) میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ (بخاری، التفسیر، باب: لیغفر لک اللہ ما تقدم

من ذنبک وما تأخر، ۴۸۳۶، و مسلم، صفات المنافقین، باب: اکثار الاعمال والاجتهاد فی العبادہ، ۲۸۱۹)

نیند سے جاگتے وقت کی دعا:

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو (بستر سے تہجد کے لیے) اٹھتے تو (یہ) پڑھتے: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)) دس بار ((الْحَمْدُ لِلَّهِ)) دس بار ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ)) دس بار ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)) دس بار ((أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)) دس بار ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) دس بار اور پھر ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) دس بار۔ (ابو داؤد: الأدب، ۵۰۸۵)، پھر کہتے ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي)) (ابو داؤد،

الصلاة؛ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ ٧٦٦ - ١ سے امام ابن حبان (٦٣٩) نے صحیح کہا۔

”اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اپنی تعریف سمیت (ہر عیب سے) پاک ہے، میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے۔ اے اللہ! میں دنیا و آخرت کی تکلیفوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے معاف فرما، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز۔“

پھر (وضو وغیرہ کر کے) تہجد شروع کرتے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“.

”اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ (ہر عیب سے) پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے“، پھر کہے:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) ”اے اللہ! مجھے بخش دے“ (یا کوئی اور دعا کرے) تو قبول ہوگی۔ اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو (وہ بھی) قبول کی جائے گی“.

(بخاری، التہجد؛ باب فضل من تعار من الليل فصلی؛ ١١٥٤)

رسول اللہ ﷺ تہجد کے لیے اٹھے، تو آپ نے بیٹھنے کے بعد سورت آل عمران کی آخری

دس آیات (۱۸۹-۲۰۰) پڑھیں: (بخاری، العمل فی الصلاة؛ باب استعانة اليد فی الصلاة اذا كان من امر

الصلاة؛ ١١٩٨ و مسلم، صلاة المسافرين؛ باب صلاة النبي ﷺ و دعائه بالليل؛ ٧٦٣)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِذَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِلْأُولَى

الْأَلْبَابِ ☆ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ☆ رَبَّنَا إِنَّكَ
مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ☆ رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ ☆ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ ☆ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
وَقُتِلُوا أَلَا كَفَرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَلَّلْنَاهُمْ حَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ☆ لَا يُغْرَنَّاكَ تَقَلُّبُ الدِّينِ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ☆
مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ☆ لَكِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا رَبَّهْمْ لَهُمْ حَنَاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلَّهِ لِبَرَارِ ☆
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا
يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
☆ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ☆

”زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں (پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں:) ”اے اللہ ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو (اس عیب سے) پاک ہے پس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اے ہمارے

رب! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا (اور کہتا تھا) ”اپنے رب پر ایمان لاؤ“ سو ہم ایمان لے آئے پس اے ہمارے رب! ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب! جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے کئے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورے فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے“ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی (اور فرمایا) میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہذا جن لوگوں نے (میری خاطر) ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور (میرے لیے) لڑے اور مارے گئے میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی! (دنیا کے) ملکوں میں کافر لوگوں کا (عیش و عشرت سے) چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور اس کتاب کو بھی جو (اس سے قبل خود) ان کی طرف اتاری گئی تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، یہی ہیں وہ لوگ جن کا اجر ان کے رب کے پاس (محفوظ) ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اے ایمان والو! صبر سے کام لو باہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“۔

تہجد کی دعائے استفتاح:

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو (تکبیر تحریمہ کے بعد یہ) پڑھتے:

”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْحَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“.

”الہی! تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے (سب کو) تو ہی قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے (اس سب) کی بادشاہت تیرے لیے ہے۔ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔ تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان میں ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔ تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا۔ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔ تو حق ہے اور (دنیا و آخرت کے متعلق) تیرا وعدہ حق ہے۔ (آخرت میں) تیری ملاقات حق ہے۔ تیرا کلام حق ہے۔ جنت حق ہے۔ جہنم حق ہے۔ تمام انبیاء حق ہیں اور محمد ﷺ حق ہیں قیامت حق ہے۔ الہی! میں تیرے سامنے جھک گیا، میں تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا۔ صرف تیری ہی مدد سے (دشمنوں سے) جھگڑتا ہوں۔ میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا، سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ (سارے کے سارے) گناہ معاف کر

دے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں ہے۔

(بخاری: التہجد، باب: التہجد باللیل ۱۱۲۰، و مسلم: صلاة المسافرين، باب: صلاة النبي ودعائه باللیل: ۷۶۹)۔

رسول اللہ ﷺ کی تہجد کی کیفیت:

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا۔

(بخاری: التہجد، باب قیام النبي ﷺ باللیل فی رمضان وغیرہ ۱۱۴۷)

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے تہجد میں (اتنا لمبا) قیام کیا کہ اس ایک آیت کو

(عجز والحاح سے بار بار) پڑھتے صبح کر دی:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (المائدة: ۱۱۸)۔

”اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ یقیناً تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً

تو غالب (اور) حکمت والا ہے۔“

(نسائی: الافتتاح، باب تردید الایة ۱۷۷/۲، ۱۰۱۰) اسے حاکم ۲۳۱/۱ اور ذہبی نے صحیح کہا)

حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت ﷺ کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں سورت فاتحہ کے بعد

آپ نے سورۃ البقرۃ پڑھی۔ پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا۔ (یعنی قیام

کی طرح رکوع بھی کافی طویل کیا) پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا۔ آپ کا قومہ آپ کے رکوع

کی مانند تھا۔ آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانند تھا۔ آپ دونوں سجدوں کے درمیان (جلسہ میں)

اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے۔ (یعنی سجدے کی طرح جلسہ میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان

کیا) پس آپ نے چار رکعتوں میں سورۃ البقرۃ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ

المائدۃ پڑھیں۔ (ابوداؤد: الصلاة، باب: ما یقول فی رکوعہ و سجودہ ۸۷۴۔ امام حاکم نے صحیح کہا)

سبحان اللہ! یہ تھی نبی رحمت ﷺ کی نماز تہجد۔ صرف چار رکعات میں سوا سات پارے

پڑھے۔ پھر رکوع، قومے، سجدے اور جلسے کی درازی اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کثرت سے

پڑھنا آپ پر ختم تھا۔

سیدنا حدیثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نفل نماز میں شریک ہوا۔ آپ نے (سورہ فاتحہ کے بعد) سورہ البقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ آپ سو آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے مگر آپ پڑھتے چلے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ سورت بقرہ کو دو رکعتوں میں تقسیم کریں گے لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورہ البقرہ ختم کر کے سورہ النساء شروع کر لی پھر اسے ختم کر کے سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کر دیا اس کو بھی ختم کر ڈالا۔ آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے۔ جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا تو سبحان اللہ کہتے۔ اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو ((اعوذ باللہ)) پڑھتے۔ آل عمران ختم کر کے آپ ﷺ نے رکوع

کیا۔ (مسلم، صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ۷۷۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں کیونکہ آپ ﷺ نے آل عمران کی تلاوت ”النساء“ کے بعد کی حالانکہ ”آل عمران“ ترتیب میں ”النساء“ سے پہلے ہے۔

طاقت سے بڑھ کر مشقت کی ممانعت:

رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے (بطور سوال) دریافت کیا: ”مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی۔ اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو۔ رات کو قیام کرو اور نیند بھی، ایک ماہ میں ایک بار قرآن پاک ختم کر لیا کرو، انہوں نے عرض کی میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”تو بیس دن میں ختم کر لیا کرو“ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سات دن میں ختم کر لیا کرو۔ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ کیونکہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ تمہارے ملاقاتیوں کا

تم پر حق ہے۔ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے۔ اور شاید تمہاری عمر زیادہ ہو (اور تم یہ کام بڑھاپے میں نہ کر سکو) عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہوئے تو آرزو کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ ﷺ کی رخصت قبول کر لیتا“ (بخاری: فضائل القرآن، باب: فی کم یقرا القرآن؟ (۵۰۵۴) ومسلم: الصیام، باب النهی عن صوم الدهر... (۱۱۵۹)

پھر آپ ﷺ نے انہیں قرآن پاک تین دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا: ”قرآن پاک سے اس شخص کو کچھ سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو تین دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے“ (ترمذی: القراءات، باب ۲۹۴۹۱۱ و سنن ابی داؤد: شہر رمضان، باب: فی کم یقرا القرآن؟ ۱۳۹۰۴۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ نے مسجد کے اندر دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ زینب بنت علیؓ کی رسی ہے وہ (رات کو نفل) نماز پڑھتی رہتی ہیں پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو کھول ڈالو ہر شخص اپنی خوشی کے موافق نماز پڑھے پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے“۔ (مسلم: صلاة المسافرين، باب فضیلة العمل الدائم: ۷۸۴)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جائز لذتوں سے کنارہ کشی اور جسمانی تکالیف پر مشتمل صوفیانہ ریاضتوں اور مجاہدات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے [ع]۔ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو۔ اللہ کی قسم! اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے“۔

(مسلم: صلاة المسافرين، باب فضیلة العمل الدائم... ۷۸۵)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات کے نوافل میں دو سو آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے“ (سنن دارمی: فضائل القرآن، باب من قرا بماتى آية ۳۴۵۱)

اسے امام حاکم اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

آپ ﷺ کی تین دعائیں:

خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں ایک رات نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو اس طرح نماز ادا کرتے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا: ”تم نے درست کہا۔ نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ اشتیاق بڑھایا جاتا ہے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی جاتی ہے چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین سوال کئے جن میں سے دو قبول ہوئے۔ ایک سوال یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح برباد نہ کرے اس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ دوسرا سوال یہ کہ میری (ساری) امت پر (بیک وقت) دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو، یہ بھی قبول کر لیا گیا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا“ (ترمذی، الفتن، باب ما جاء فی سوال النبی ﷺ ثلاثاً فی امتہ ۲۱۷۵، ابن حبان (۱۸۳۰) امام ترمذی نے اسے حسن غریب صحیح کہا)

تہجد میں قراءت:

رسول اللہ ﷺ رات کے نوافل میں کبھی سری (آہستہ) اور کبھی جہری (بلند آواز سے) قراءت فرماتے۔ (ترمذی، الصلاة، باب ما جاء فی قراءۃ اللیل، ۴۴۹۔ ابن ماجہ، إقامة الصلاة، باب ما جاء فی القراءۃ فی صلاة اللیل، ۱۳۵۴)

جب آپ گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرہ میں آپ کی قرأت سنائی دیتی تھی۔

(ابو داؤد، باب رفع الصوت بالقرأة فی صلاة اللیل، ۱۳۲۷)

آپ ﷺ ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آہستہ قراءت سے

نوافل پڑھ رہے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نوافل میں اونچی آواز سے قرأت کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو بکر رات میں تیرے پاس سے گزرا، تو پست آواز سے نوافل پڑھ رہا تھا۔؟“ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جس (اللہ) سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: ”رات میرا تیرے پاس سے گزر ہوا، تو اونچی آواز کے ساتھ نفل پڑھ رہا تھا“ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں سوئے ہوؤں کو بیدار کرنا چاہتا تھا (کہ وہ بھی تہجد پڑھیں) اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس پر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذرا اونچی آواز سے اور عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا۔ (ابو داؤد: التطوع، باب: باب رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل، حدیث ۱۳۲۹۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

قیام اللیل کا طریقہ:

رسول اللہ ﷺ کا بالعموم وتر پڑھنے کا طریقہ، عائشہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرماتی ہیں کہ: ”نبی رحمت ﷺ نماز عشاء سے فجر تک گیارہ رکعتیں پڑھتے۔ ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت وتر پڑھتے“ (مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی فی اللیل ۷۳۶)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رات کی نماز دو رکعتیں ہے۔ جب صبح (صادق) ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لو، یہ (ایک رکعت، پہلی ساری) نماز کو طاق بنا دے گی“ (بخاری، الوتر، باب ماجاء فی الوتر، ۹۹۰ و مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی ﷺ فی اللیل ۷۴۹)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے دو ہلکی رکعتیں ادا کرو“ (مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة النبی ودعاہ باللیل: ۷۶۸)

آپ نے رات کا قیام کیا پہلے دو ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے ہلکی دو طویل رکعتیں پڑھیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکعتیں پڑھیں، پھر ان سے ہلکی دو طویل رکعتیں پڑھیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکعتیں پڑھیں

سے ہلکی دو رکعتیں پھر ایک رکعت وتر پڑھا۔ یہ تیرہ رکعتیں ہوئیں۔ آپ کی ہر دو رکعتیں پہلے والی دو رکعتوں سے ہلکی ہوتی تھیں۔ (مسلم، صلاة المسافرين، باب الدعاء فی صلاة اللیل و قیامہ، حدیث ۷۶۵)

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو کبھی سات، کبھی نو اور کبھی گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ (بخاری، التہجد، باب کیف صلاة النبی ﷺ، ۱۱۳۹)

نماز وتر کا وقت:

عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے وتر اول شب میں، بیچ میں اور آخر میں سب وقت ادا کئے ہیں۔ (مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی ﷺ فی اللیل، ۷۴۵)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسے خطرہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے پھر سو جائے۔ اور جس کو یقین ہو کہ وہ رات کو اٹھ جائے گا وہ آخر میں وتر پڑھے اس لیے کہ آخر رات کی قرأت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب: من خاف أن لا یقوم من أقر اللیل فلیوتر أوله، ۷۵۵)

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو رات کو نماز پڑھے تو وتر کو سب سے آخر میں ادا کرے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ یہی حکم فرماتے تھے (مسلم: ۷۵۱)

پانچ، تین اور ایک وتر:

ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وتر ہر مسلمان پر حق ہے۔ پس جو شخص پانچ رکعات وتر پڑھنا چاہے تو (پانچ) رکعات پڑھے اور جو کوئی تین رکعات وتر پڑھنا چاہے تو (تین رکعات) پڑھے اور جو کوئی ایک رکعت وتر پڑھنا چاہے تو (ایک) رکعت (وتر) پڑھے“ (ابوداؤد، الوتر، باب کم الوتر؟ ۱۴۲۲۔ ابن ماجہ: إقامة الصلاة، باب: ماجاء فی الوتر بثلاث

و خمس و سبع و تسع، ۱۱۹۰۔ امام حاکم (۳۰۳/۳۰۲)، امام ذہبی اور ابن حبان (۶۷۰) نے اسے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ رات کو (کل) تیرہ رکعات پڑھتے اور ان میں پانچ رکعات وتر پڑھتے

تھے (اور ان پانچ وتروں میں) کسی رکعت میں (تشہد کے لیے) نہ بیٹھتے مگر آخر میں۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل و عدد ركعات النبي ﷺ في الليل، ۷۳۷)

معلوم ہوا کہ وتروں کی پانچوں رکعتوں کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔
بلکہ پانچوں رکعتیں پڑھ کر قعدہ میں التحيات درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے۔
تین وتروں کی قراءت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ پہلی رکعت وتر میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ دوسری میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور تیسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿الْفَلَقِ﴾ اور ﴿النَّاسِ﴾ پڑھتے تھے۔

(ترمذی: الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ به في الوتر: ۴۶۳۔ امام ذہبی اور ابن حبان (۶۷۵) نے اسے صحیح کہا)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین وتر نہ پڑھو پانچ یا سات وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو“ (دار قطنی، ۲/۲۵۰، حاکم، ذہبی اور ابن حبان (۶۸۰) نے اسے صحیح کہا)۔
اگر دو رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر ایک رکعت پڑھی جائے تو مغرب کی مشابہت نہیں ہوگی۔

وتر کی ایک رکعت:

عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور ایک رکعت وتر پڑھتے۔ (ابن ماجہ: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بركعة: ۱۱۷۷، امام بوسیری نے اسے صحیح کہا)۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی دو اور ایک رکعت میں سلام سے فصل کرتے۔ (ابن حبان، ۶۷۸۔ حافظ ابن حجر نے اسے قوی کہا ہے)۔

یعنی تین وتر بھی اس طرح پڑھتے کہ دو رکعات پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر اٹھ کر تیسری رکعت الگ پڑھتے (ع، ر)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وتر پڑھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ (انہوں نے) درست کام کیا وہ فقیہ اور صحابی ہیں۔

(بخاری، فضائل الصحابة، باب: ذکر معاویة رضی اللہ عنہ: ۳۷۶۵)

امام مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فصل (وتر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر ایک رکعت الگ پڑھنے) والی احادیث زیادہ ثابت ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”وتر“ آخرات میں ایک رکعت ہے“۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل منثی منثی، ۷۵۲)

وتر کی نورکتیں:

سعد بن ہشام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ کے وتر کے بارے میں بتلائیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”میں آپ ﷺ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی۔ پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کو اٹھاتا۔ پھر آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور نورکعات نماز (وتر) پڑھتے، آٹھویں رکعت کے بعد تشهد میں بیٹھتے (اور اس سے قبل ۲، ۳، ۶ رکعت کے بعد التحیات نہ پڑھتے تھے) پھر سلام پھیرے بغیر (التحیات پڑھ کر) کھڑے ہو جاتے، پھر نویں رکعت پڑھتے اور (اس کے بعد آخری قعدے میں) بیٹھ جاتے۔ پس اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے (یعنی آخری قعدہ کی معروف دعا پڑھتے) پھر سلام پھیرتے“ جب رسول اللہ ﷺ بڑی عمر کو پہنچے (تو) آپ سات رکعات وتر پڑھتے تھے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں۔ جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں بارہ رکعات نفل پڑھتے اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ (مسلم، صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ۷۴۶)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی رحمت ﷺ نے (ایک سلام کے ساتھ) نو وتر پڑھے۔ اور آپ ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات نہیں بیٹھتے تھے بلکہ صرف آٹھویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے۔ اور پھر آخری رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ اور اگر آپ رات کا قیام نہ کر سکتے تو دن میں بارہ رکعت ادا فرماتے تھے۔

ایک رات میں کئی وتر پڑھنے کی ممانعت:

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”ایک رات میں دو بار وتر (پڑھنا جائز) نہیں“ (ابو داؤد: السوتر،

باب: فی نقض الوتر ۱۴۳۹. ابن خزیمہ (۱۱۰) اور امام ابن حبان (۶۷۱) نے صحیح اور حافظ ابن حجر نے حسن کہا)

وتروں کے بعد ذکر:

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتروں سے سلام پھیر کر تین بار یہ پڑھتے: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)) ”پاک ہے بادشاہ نہایت پاک“۔

(ابو داؤد: السوتر، باب فی الدعاء بعد الوتر، ۱۴۳۰ - نسائی قیام اللیل و تطوع النہار، باب: نوع آخر من

القرائة فی الوتر: ۱۷۳۰. امام ابن حبان (۶۷۷) نے صحیح کہا)

وتر کی قضا:

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے یا جاگ آئے تو وہ وتر پڑھے“۔

(ابو داؤد: الوتر، باب: فی الدعاء بعد الوتر ۱۴۳۱. امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص رات کا وظیفہ یا کوئی دوسرا معمول چھوڑ کر سو گیا اور پھر اسے نماز فجر سے ظہر تک کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل

جائے گا“ (مسلم: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة اللیل ومن نام عنه أو مرض ۷۴۷)

ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ تھوڑا ہی ہو“ (بخاری، الرقاق، باب القصد و المداومة علی العمل)

۶۴۶۴ - مسلم، صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، (۷۸۲)

نبی رحمت ﷺ نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو فرمایا: ”اے عبد اللہ! تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا“ (بخاری، التهجید، باب ما یکرہ من ترک قیام لیل لمن کان یقوم ۱۱۵۲، مسلم، الصیام، باب: النهی عن صوم الدهر: ۱۱۵۹)

دعائے قنوت:

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ تین وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے“ (نسائی: قیام اللیل، باب: ذکر اختلاف أفضال الناقلين لتحبر أبي بن كعب في الوتر: ۲۳۵/۳، ابن ماجہ، إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع و بعده، ۱۱۸۲) اسے ابن ترکمانی اور ابن اسکن نے صحیح کہا)

عبد اللہ بن مسعود اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، اسے ابن ترکمانی نے صحیح اور حافظ ابن حجر نے حسن کہا)

وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں کہ آپ ﷺ کا رکوع کے بعد والا قنوت، قنوت وتر تھا یا قنوت نازلہ۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے۔

حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو قنوت وتر میں کہوں:

”اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ

وَاللَّيْتُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ“.

”اے اللہ! مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچالے۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا اور جس کا تو دوست بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا اور وہ شخص عزت نہیں پاسکتا جسے تو دشمن کہے، اے ہمارے رب! تو (بڑا) ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے“.

(ابوداؤد، الوتر، باب القنوت فی الوتر، ۱۴۲۵۔ ترمذی: الصلاة، باب: ماجاء فی القنوت فی الوتر ۶۳، ۴۔)

امام ترمذی نے اسے حسن اور امام ابن خزیمہ (۲/۱۵۱، ۱۵۲ حدیث ۱۰۹۵) نے صحیح کہا۔

تنبیہات:

دعائے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار ملتے ہیں۔

((رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)) کے بعد ((نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ)) کے الفاظ رسول اللہ ﷺ کی احادیث

میں موجود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ دعائیں اضافہ ہے۔

((صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ)): ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں قیام

اللیل کرتے اور قنوت میں نبی ﷺ پر درود بھیجتے تھے۔ اس طرح معاذ انصاری رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے۔

(صحیح ابن خزیمہ ۱۱۰۰)، لہذا آخر میں ((صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ)) پڑھنا جائز ہے۔

قنوت نازلہ

جنگ، مصیبت اور غلبہ دشمن کے وقت دعائے قنوت پڑھنی چاہیے۔ اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں (رکوع کے بعد) قنوت کرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْأَفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ الْعَن كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَيُكَدِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالَفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ“.

”اے اللہ! ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے۔ ان کی (باہمی) اصلاح فرما دے۔ اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ! کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ اے اللہ! ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا“ (بیہقی ۲/۲۱۰:۲۱۱) اور انہوں نے اسے صحیح کہا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بددعا یا نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) کہنے کے بعد دعا فرماتے۔ (بخاری، التفسیر، باب

(ليس لك من الامر شيء) ۴۵۶۰، مسلم، المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوة، ۶۷۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک پانچوں نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔

(ابوداؤد، الوتر، باب القنوت في الصلوات، ۱۴۴۳) اسے حاکم، حافظ ذہبی اور امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا)

قیام رمضان

”جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں“ (بخاری، صلوة التراویح، باب فضل من قام رمضان، ۲۰۰۸، و مسلم، صلاة المسافرين، باب الترغیب فی قیام رمضان، ۷۵۹)

رسول اللہ ﷺ نے تین رات قیام رمضان کیا:

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (رمضان المبارک کے) روزے رکھے (شروع میں) آپ نے ہمارے ساتھ مہینے میں سے کچھ بھی قیام نہ کیا یہاں تک کہ ۲۳ ویں رات کو آپ نے تہائی رات تک قیام رمضان کیا۔ پھر آپ نے ۲۴ ویں رات چھوڑ کر ۲۵ ویں رات کو آدھی رات تک قیام کیا پس میں نے عرض کی کہ کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ ہمیں باقی رات بھی نفل پڑھاتے آپ نے فرمایا: ”جو شخص امام کے ساتھ قیام (رمضان) کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے“ پھر ۲۶ ویں رات کو چھوڑ کر ۲۷ ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا یہاں تک کہ ہمیں فلاح ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلاح کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا سحری۔

(ابوداؤد، ابواب شہر رمضان، باب فی قیام شہر رمضان، ۱۳۷۵ - ترمذی، الصوم، باب ماجاء فی قیام

شہر رمضان، ۸۰۶ - نسائی، ۸۳/۳، ۱۳۶۴ - اسے امام ابن حبان (۹۱۹) اور امام ابن خزیمہ (۲۲۰۶) نے صحیح کہا)

آپ ﷺ نے (تین رات کے قیام کے بعد) فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے۔ تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر (یہ نماز) فرض نہ کر دی جائے (اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا) پس تم اپنے اپنے گھروں میں (رمضان کی راتوں کا) قیام کرو۔ آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے“ (بخاری، الاذان، باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللہ، ۶۱۱۳، و مسلم، صلاة

قیام رمضان : گیارہ رکعت

ابوسلمہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ ﷺ کی رات والی نماز کیسی تھی؟ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”رمضان ہو یا غیر رمضان رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز (بالعموم) گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے“ (بخاری، صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان: ۲۰۱۳، ومسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة الليل و عدد ركعات النبي ﷺ في الليل، ۷۳۸)

”جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں آٹھ رکعت قیام رمضان پڑھائیں پھر وتر پڑھائے۔

(ابن حزيمة، ۱۰۷۰۔ ابن حبان، ۹۲۰۔ ابو يعلى الموصلي، ۱۸۰۲۔ امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا)

سائب بن یزید سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم دارمی رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت قیام رمضان پڑھائیں۔ (موطا امام مالك، الصلاة في رمضان، باب ماجاء في قیام رمضان ۱/۱۱۵۔ ضياء المقدسي اور شيخ الباني نے اسے صحیح کہا)

ثابت ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینے کے قراء کو گیارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔

امیر المومنین عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے ۲۰ رکعت قیام اللیل کی تمام روایات سنداً ضعیف ہیں۔

سحری اور نماز فجر کا درمیانی وقفہ:

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ”انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے (اور نماز پڑھی)۔ سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کا وقفہ اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی شخص قرآن حکیم کی پچاس یا ساٹھ آیتیں پڑھ لیتا ہے“۔

(بخاری، مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ۵۷۵، مسلم، الصيام، باب: فضل السحور: ۱۰۹۷)

نماز جمعہ

جمعہ بہترین دن:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین دن، جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کئے گئے، اسی دن جنت سے (زمین پر) اتارے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی“ (مسلم، الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، ۸۵۴)

ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک بڑا دن ہے اور یہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے، اس میں پانچ باتیں ہیں:

- ۱- اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔
- ۲- اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔
- ۳- اس دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔
- ۴- اس میں ایک گھڑی ہے جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے جب تک وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔
- ۵- اس دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہوا میں، نہ پہاڑ میں اور نہ دریا میں مگر وہ جمعہ سے ڈرتے ہیں“۔

(ابن ماجہ: إقامة الصلاة، باب: فی فضل الجمعة: ۱۰۸۴ . بوسیری نے حسن کہا)۔

جمعہ کی فرضیت:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿﴾

”اے اہل ایمان! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر (خطبہ اور نماز) کی طرف دوڑو اور (اس وقت) کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے“ (الجمعة: ۹)۔

ابوالجعد ضمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سستی کی وجہ سے تین جمعہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے“۔ (ابوداؤد: الصلاة، باب: التشديد في ترك الجمعة، ۱۰۵۲، ترمذی ۴۹۹، اسے حاکم (۲۸۰/۱) ابن خزیمہ (۱۸۵۸) ابن حبان (۵۵۴) اور امام ذہبی نے صحیح کہا) آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافل ہو جائیں گے“ (مسلم، الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، ۸۶۵)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر جمعہ میں نہیں آتے۔ (مسلم، المساجد، باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التحلف عنها، ۶۰۵) معلوم ہوا کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اس پر شدید وعید ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب منبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔

جمعہ کی فضیلت:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہو خاموشی اور سکون کے ساتھ خطبہ سنے، کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگے، کسی کو تکلیف نہ دے تو یہ عمل اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور تین دن مزید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کے لیے دس گنا ثواب ہے“ (أبو داؤد: الصلاة،

باب: الکلام والإمام یخطب: (۱۱۱۳).

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پاپیادہ (مسجد میں) جائے کسی سواری پر سوار نہ ہو، امام کے نزدیک ہو کر دل جمعی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر ایک برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا“.

(ترمذی: الجمعة، باب: ما جاء فی فضل الغسل یوم الجمعة: ۴۹۶ - أبو داود: الطهارة، باب: فی الغسل یوم

الجمعة: ۳۴۵. ابن حبان (۵۵۹) امام حاکم (۲۸۱/۱) اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے (موچھیں کترائے، ناخن کٹائے، زیر ناف بال موٹڈے اور بغلوں کے بال دور کرے وغیرہ) پھرتیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور (جمعہ کے لیے) مسجد کو جائے۔ (وہاں) دو آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے (بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے) پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے۔ پھر دوران خطبہ خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں“ (بخاری: الجمعة باب الدهن للجمعة ۸۸۳)

جمعہ میں پہلے آنے والوں کا ثواب:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر (ثواب لکھنے کے لیے) ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آنے والے کا (اسی طرح نمبر وار لکھتے جاتے ہیں) جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو دنبہ بھیجنے والے کے برابر۔ اس کے بعد آنے والے کو مرغی اور اس کے بعد آنے والے کو اونٹ اصدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ

دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر (لکھے ہوئے اوراق) لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔

(بخاری، الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة ۹۲۹۔ مسلم، الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة ۸۵۰)

جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے“ (بخاری، الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ۹۳۵، مسلم، الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة: ۸۵۲)۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے (منبر پر) بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمہ تک ہے“ (مسلم: ۸۵۳)۔
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو“ (ابو داؤد: ۱۰۴۸)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو“ (ترمذی: ۴۸۹)۔

جمعہ کے متفرق مسائل:

(۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غلام، عورت، بچے اور بیمار کے علاوہ جمعہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے“ (ابو داؤد: الصلاة، باب: الجمعة للمملوك والمرأة: ۱۰۶۷۔ امام نووی نے اسے صحیح کہا)۔
(۲) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جو اٹی میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔

(بخاری: الجمعة، باب: الجمعة في المدن و القرى: ۸۹۲)

اس سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہے اگر لوگ گاؤں میں جمعہ نہیں

پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔

اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ”نقیح الخضعات“ کے علاقہ میں بنو بیاضہ کی بستی ”ہزم النبیث“ (جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلہ پر تھی) میں جمعہ قائم کیا، ان کے ساتھ چالیس نمازی تھے۔ (أبو داود: الجمعة، باب: الجمعة فی القرى: ۱۰۶۹، حاکم (۲۸۱/۱) امام ابن خزیمہ (۱۷۲۳) اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تو اعتراض نہ کرتے۔ (عبدالرزاق ۳/۱۷۰، حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا)

(۳) حنین کے دن بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے مؤذن کو حکم دیا: ”آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو اور وہ جمعہ کا دن تھا“ (أبو داود: الصلاة، باب: الجمعة فی الیوم المطیر: ۱۰۵۹، ۱۰۵۷، اسے امام حاکم (۲۹۳/۱) امام ابن خزیمہ (۱۸۶۳) امام ابن حبان (۲۳۹۰، ۲۳۹۱) اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

معلوم ہوا کہ بارش کے روز جمعہ کی نماز پڑھنی واجب نہیں۔ یعنی اگر بارش کے روز جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے اور بارش کے باعث اگر جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھ لی جائے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔

(۴) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”آج کے دن دو عیدیں (عید اور جمعہ) اکٹھی ہو گئی ہیں۔ جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے تو اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم (عید اور جمعہ) دونوں پڑھیں گے۔“

(أبو داود: الصلاة، باب: إذا وافق یوم الجمعة یوم عید: ۱۰۷۳۔ اسے امام حاکم اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی۔ تو انہوں نے نماز عید پڑھائی جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعہ کی خبر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ملی تو انہوں نے فرمایا: ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ (نسائی: صلاة العیدین، باب الرخصة فی التخلیف عن الجمعة لمن شهد العید: ۱۰۹۲، أبو داود: ۱۰۷۱)

امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا)

(۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، 'اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بناؤ' (ابن مساجہ: لإقامة الصلاة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة:

۱۰۹۶، أبو داود: ۱۱۷۸، امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ (۱۷۶۵) نے اسے صحیح کہا)

(۶) سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شدت کی سردی میں جمعہ کی نماز سویرے پڑھتے تھے۔ اور شدت کی گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے۔ (بخاری: الجمعة، باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة: ۹۰۶)

(۷) نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: 'امام کے ساتھ (جتنی نماز پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے پورا کرو' (مسلم: المساجد، باب استحباب اتیان الصلاة بوقار و سكينۃ، ۶۰۲)

اس حدیث کی رو سے نماز جمعہ کی دوسری رکعت کے سجدہ یا تشہد کو پانے والا (سلام پھرنے کے بعد اٹھ کر) دو رکعتیں ہی پڑھے گا (چار نہیں) کیونکہ اس کی فوت شدہ نماز دو رکعتیں ہیں چار رکعتیں نہیں۔

دوران خطبہ دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھو:

رسول اللہ ﷺ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے۔ اور دو رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ نبی رحمت ﷺ نے پوچھا: 'کیا تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کی: 'نہیں یا رسول اللہ!، آپ ﷺ نے حکم دیا: 'کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھو، پھر آپ نے (ساری امت کے لیے) حکم دے دیا: 'جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام خطبہ (جمعہ) دے رہا ہو تو اسے دو مختصری رکعتیں پڑھ لینی چاہئیں،'

(بخاری: الجمعة، باب اذا رای الامام رجلا جاء و هو یخطب... ۹۳۰، ۱۱۶۶، مسلم: الجمعة، باب النحیة

والامام یخطبہ ۸۷)

معلوم ہوا امام خطبہ میں مقتدی سے کلام کر سکتا ہے اور اس کو کوئی حکم بھی دے سکتا ہے۔

جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس نے غسل کیا۔ جمعہ میں آیا جتنی تقدیر میں تھی نماز پڑھی خطبہ سے فارغ ہونے تک چپ رہا پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے جمعہ سے گذشتہ جمعہ تک اور ۳ دن کے اور گناہ معاف ہو گئے۔ اور جو کنکر یوں سے کھیلے اس نے فضول کام کیا (مسلم، الجمعة، باب فضل من استمع و انصت فی الخطبة: ۸۵۷)۔

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ سے پہلے رکعتیں مقرر نہیں ہیں بلکہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا رہے۔ مگر دو رکعت ضروری ہیں۔

گردنیں نہ پھلانگو:

عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا: ”بیٹھ جاؤ! تم نے (لوگوں کو) ایزادی اور دیر لگائی“ (ابوداؤد: الصلاة، باب من تحطی رقاب الناس یوم الجمعة: ۱۱۱۸۔

امام حاکم (۲۸۸/۱) امام ابن خزیمہ (۱۸۱۶) ابن حبان (۵۷۲) اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو چاہیے انہیں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔

خطبہ جمعہ کے مسائل:

(۱) رسول اللہ ﷺ دو خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے۔

(بخاری، الجمعة باب العقده بین الخطبتین یوم الجمعة ۹۲۸، مسلم: ۸۶۱)۔

رسول اللہ ﷺ خطبہ میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ (مسلم: ۸۶۲)۔

آپ ﷺ کی نماز بھی اوسط درجے کی اور خطبہ بھی اوسط درجے کا ہوتا تھا۔

(مسلم، الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة: ۸۶۶)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دانائی کی علامت ہے۔

پس نماز طویل کرو اور خطبہ مختصر کرو اور بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔“

(مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة و الخطبة: ۹۶۹)

- (۲) نبی اکرم ﷺ خطبہ جمعہ میں سورۃ ق کی تلاوت فرماتے تھے۔ (مسلم: ۸۷۲)
- (۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ’جمعہ کے خطبہ میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو (ازراہ نصیحت) کہے ’’چپ رہو‘‘ تو بلاشبہ تو نے بھی لغو (کام) کیا‘‘ (بخاری، الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، والامام يخطب، ۹۳۴، و مسلم، الجمعة، باب في الانصات يوم الجمعة في الخطبة، ۸۵۱)

اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبہ (سامعین کو آپس میں) کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ بڑی خاموشی سے خطبہ سنا چاہیے۔ البتہ خطیب اور مقتدی ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔

- (۴) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ’’جسے جمعہ کے وقت اونگھ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے‘‘ (ترمذی: الجمعة، باب: ما جاء فيمن نعت يوم الجمعة: ۵۲۶، امام ترمذی نے حسن صحیح کہا)۔
- (۵) ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ نافع سے پوچھا گیا کیا صرف جمعہ میں منع ہے؟ فرمانے لگے جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی۔ (بخاری، الجمعة، باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه: ۹۱۱، مسلم: ۲۱۷۷)۔

- (۶) عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ نے بشیر بن مروان کو جمعہ کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا: اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے۔ نبی اکرم ﷺ خطبہ میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔

(مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلوة و الخطبة ۸۷۴)

- (۷) نبی رحمت ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان

تھی۔ (ابوداؤد الصلوة، باب: الرجل یخطب علی قوس ۱۰۹۶۔ امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا)

(۸) ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے (اور وہ سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے، وہ مشکل سے چل رہے تھے) رسول اللہ ﷺ منبر پر سے اترے انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا پھر فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے سچ کہا: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ ” بیشک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں“ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا جو مشکل سے چل رہے تھے پس مجھ سے صبر نہ ہوا حتیٰ کہ میں نے اپنا کلام منقطع کیا اور انہیں اٹھایا“ (ترمذی: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين: ۳۷۷۴)۔

معلوم ہوا امام اپنا خطبہ چھوڑ کر کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔

(۹) نبی رحمت ﷺ نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ (ترمذی: الجمعة)

باب ما جاء فی کراهیة الاحتباء والامام یخطب ۵۱۴۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا)

گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے۔ نیز شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔

(۱۰) جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی۔

(مسلم: الجمعة، باب ذکر الخطبتین قبل الصلوة وما فیہما من الجلسة ۸۶۲)

کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبدالرحمن بن ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (الجمعة: ۱۱)۔

”اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو (خطبے میں) کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں“۔

(مسلم، الجمعة، باب فی قوله تعالى: واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها و تركوك قائما: ۸۶۴)

معلوم ہوا کہ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دینا خلاف سنت ہے۔ کیونکہ صحابی رضی اللہ عنہ نے آیت سے آپ کے خطبہ میں کھڑے ہونے پر استدلال کیا۔

(۱۱) رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا۔ آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔

(مسلم، الحج، باب جواز دخول مكة بغير احرام، ۱۳۵۹)

(۱۲) رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد، الصلاة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ۱۰۷۹، ترمذی، الصلاة، باب ما جاء في كراهية البيع والشراء و انشاد الشعر في المسجد، ۳۲۲، امام ترمذی نے حسن۔ امام ابن خزیمہ (۱۸۱۶) نے اسے صحیح کہا) لہذا جو علماء اذان اور دو خطبوں سے پہلے تقریر کرتے ہیں انہیں اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہوتی اور جوش میں آ جاتے تھے۔ گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہے اور فرماتے کہ: ”میں اور قیامت ساتھ ساتھ اس طرح بھیجے گئے ہیں“ آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملاتے۔

(مسلم، الجمعة، باب تخفيف الصلاة والجمعة، ۸۶۷)

ظہر احتیاطی کی بدعت:

بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ ”ظہر احتیاطی“ پڑھتے اور اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ

رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں۔ ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد (احتیاطاً) ظہر کے فرض پڑھنے والے اور پڑھنے کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ معاذ اللہ! کیا رسول اللہ ﷺ جمعہ کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے؟ احتیاطی پڑھنے والو! اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ ﷺ سے آگے نہ بڑھو۔ نبی اکرم ﷺ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔

(محض) جمعہ کے دن روزہ رکھنا:

نبی اکرم ﷺ نے جمعہ کا دن روزہ کے لیے اور جمعہ کی شب (جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات) کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا۔

(مسلم، الصیام، باب کراہیۃ صیام یوم الجمعة منفرداً: ۱۱۴۴)

جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت:

آپ ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے“ (ابوداؤد: الصلاة، باب: فضل یوم الجمعة و لیلۃ الجمعة، ۱۰۴۷۔ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

جمعہ کی اذان:

سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زوراء (جگہ) پر ایک اور اذان دی جانے لگی۔ (زوراء مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے)۔ (بخاری: الجمعة، باب: الأذان یوم الجمعة: ۹۱۲)۔

جمعہ کے دن پہلی اذان کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اور اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا، لوگوں کو آسانی سے اذان کا علم ہو جاتا تھا، عہد عثمانی میں جب آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ اذان کی آواز نہیں

سن پاتے تھے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ گونا گوں مصروفیات کا شکار کئی لوگ مسجد میں بروقت پہنچنے سے قاصر ہو گئے اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر ذوراء کے مقام پر اذان دی جاتی، اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبوی میں (دوسری) اذان ہو جاتی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام بدعت نہیں ہے کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، ان کے دور میں مدینہ منورہ میں جب پہلی دفعہ اس اذان کی ضرورت محسوس کی گئی تو انہوں نے اسے شرعی حکم کے طور پر نہیں، محض انتظامی حل کے طور پر جاری کیا تھا جسے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خاموش تائید حاصل تھی اور ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمومی اتفاق ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوا کرتی۔ واللہ اعلم (ع، ر)۔

مسجد کے اندر امام کے خطبہ سے پہلے صرف ایک اذان ہے۔ مسجد میں دی جانے والی دو اذانوں کا ثبوت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی نہیں ملتا۔ لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔



نماز عیدین

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدنیہ منورہ تشریف لائے تو سال میں دو دن مقرر تھے جن میں لوگ کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ دو دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت سے ہم ان میں کھیلتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بدلہ میں دو بہتر دن عطا فرمائے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں“

(أبو داود: الصلاة، باب: صلاة العیدین: ۱۱۳۴)۔

نبیہ الہدیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایام تشریق یعنی ۱۱، ۱۲، اور ۱۳ ذوالحجہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں“۔

(مسلم: الصیام، باب: تحريم صوم أيام التشریق: ۱۱۴۱)۔

معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے دنوں میں کھانے پینے میں وسعت کرنا اور مباح کھیل کود میں کوئی حرج نہیں۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بچیاں دف بجا کر جنگ بعاث کا قصہ جو انصار نے اشعار میں لکھا تھا (جنگ بعاث اوس اور خزرج کے درمیان حالت کفر میں ہوئی تھی) گارہی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا۔ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو بکر! انہیں کچھ نہ کہو بے شک آج عید کا دن ہے۔ بلاشبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے“۔

(بخاری: العیدین، باب سنة العیدین لاهل الاسلام، ۹۵۲، مسلم: صلاة العیدین ۸۹۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پڑھنے والی چھوٹی بچیاں ہوں، آلات موسیقی میں سے صرف دف (یا اس سے کم تر کوئی آلہ) ہوں نیز اشعار خلاف شریعت نہ ہوں اور عید کا موقع ہو تو ایسے اشعار پڑھنے یا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مفاد پرست گویوں نے اس حدیث شریف سے اپنا الوسیدھا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی

چنانچہ انہوں نے بچپن سے ہر عمر کی پیشہ ورگلوکارہ ثابت کر دی، دف سے جملہ آلات موسیقی جائز قرار دیئے، اچھے اشعار سے گانوں کا جواز کشید کیا اور عید کے دن سے ”روح کی غذائیت“ ڈھونڈ نکالی اور یہ نہ سوچا کہ اللہ خالق و مالک ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے جواز کی جو حد چاہی مقرر کر دی اور اس سے تجاوز کو حرام کر دیا۔ (ع/ر)

مسائل و احکام:

(۱) سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جمعہ عرفہ قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے“ (بیہقی ۳/۲۷۸ اس کی سند صحیح ہے)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن عید گاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ (موطا امام مالک، العیدین، باب العمل فی غسل العیدین والنداء فیہما والاقامة۔ (۱۷۷/۱) اس کی سند صحیح الاسانید ہے)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطرا دیا جائے۔ (بخاری: الزکاة، باب: فرض صدقة الفطر: ۱۵۰۳ و مسلم: الزکاة، باب: الأمر بإخراج زکاة الفطر قبل الصلاة: ۹۸۶)۔

عید گاہ میں پہنچ کر صدقہ فطرا دیکر صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔

(۳) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی آپ نے بغیر اذان اور تکبیر کے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، (مسلم: ۸۸۵)۔

جابر بن عبداللہ الأنصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز عید کے لیے اذان ہے نہ تکبیر، پکارنا ہے نہ کوئی اور آواز۔ (بخاری: ۹۶۰، مسلم: صلاة العیدین: ۸۸۶)

(۴) ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عید گاہ میں سوائے عید کی دو رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں۔ (بخاری: العیدین، باب: الخطبة بعد العید: ۹۶۴، و مسلم:

صلاة العیدین، باب: ترك الصلاة قبل العید وبعدها فی المصلی: (۸۸۴)۔

(۵) نبی رحمت ﷺ عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلے۔ اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر کھاتے۔ (ترمذی: الجمعة، باب: ماجاء فی اکل یوم الفطر قبل الخروج ۵۴۲۔ ابن ماجہ، الصیام، باب فی الاکل یوم الفطر قبل ان یخرج ۱۷۵۶۔ ابن حبان (۵۹۳) ابن حزیمة (۱۴۲۶) ابن القطان، حاکم (۲۹۳/۱) اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

رسول اللہ ﷺ عید الفطر کے روز طاق کھجوریں کھا کر عید گاہ جایا کرتے تھے۔

(بخاری، العیدین، باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج: ۹۵۳)

(۶) انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ (بخاری، العیدین، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین (تعليقاً) بیہقی ۳/۳۰۵)

(۷) رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک سوار آیا اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی، کیونکہ رویت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا۔ (ابوداؤد: الصلاة، باب: إذا لم یخرج الإمام للعید من یومہ یخرج من العید: ۱۱۵۷۔ ابن حزم اور بیہقی نے اسے صحیح کہا)۔

اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی عذر کی بنا پر نماز عید فوت ہو جائے تو وہ اگلے دن عید کی نماز کے لیے نکلیں۔

(۸) عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ”عید کے دن سودان ڈھالوں اور نیزوں سے کھیلتے تھے رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا ہاں! مجھے آپ نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میں ان حبشیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی جو عید کے دن مسجد میں جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کر رہے تھے“ (بخاری: الصلاة، باب: أصحاب الحراب فی المسجد: ۴۵۴۔ مسلم: العیدین، باب:

الرخصة في اللعب: (۸۹۲)۔

(۹) عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے۔ امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے: ”رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا۔

(ابوداؤد الصلاة، باب: وقت الخروج الى العيد: ۱۱۳۵ سے امام حاکم اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

(۱۰) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ عید کے دن عید گاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے“ (بخاری: العیدین، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: ۹۸۶)۔

عید گاہ میں عورتیں:

(۱۱) ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم (سب عورتوں کو حتیٰ کہ) حیض والیوں اور پردہ والیوں کو (بھی) دونوں عیدوں میں (گھروں سے نکالیں) تاکہ وہ (سب) مسلمانوں کی جماعت (نماز) اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں۔ (یعنی وہ نماز نہ پڑھیں) لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں۔ تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو (تو پھر وہ کیسے عید گاہ میں جائے؟) فرمایا: ”اس کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑھا دے۔ (یعنی کسی دوسری عورت سے چادر عاریتاً لے کر چلے)“ (بخاری: صلاة، باب: وجوب الصلاة في

الغياب: ۳۵۱۔ مسلم: صلاة العیدین، باب: ذکر إباحة خروج النساء في العیدین إلى المصلى: ۸۹۰)۔

رسول اللہ ﷺ عید گاہ کی طرف جاتے۔ آپ کی عید گاہ مسجد نبوی سے ہزار ذراع کے فاصلہ پر تھی۔ یہ عید گاہ البقیع کی طرف تھی۔ (بخاری مع الفتح: ۲/۴۶۵، حدیث: ۹۷۶، کتاب العیدین)۔

تکبیرات عید:

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ

سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔“

(۱) سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن (۹ ذوالحجہ) کی فجر سے لے کر تیرہ ذوالحجہ کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ (بیہقی ۲۷۹/۳) امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا

(۲) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن گھر سے عید گاہ تک تکبیرات کہتے۔

(بیہقی ۲۷۹/۳) امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما موقوفاً محفوظ ہے

(۳) امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عید گاہ تک تکبیرات

کہتے پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۴۸۹/۱)

(۴) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ۹ ذوالحجہ کو نماز فجر سے لے کر ۱۳ ذوالحجہ نماز عصر تک ان

الفاظ میں تکبیرات کہتے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ“.

”اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے“.

(ابن ابی شیبہ: ۴۸۹/۱، ۴۹۰، ۱ سے امام حاکم (۲۹۹/۱) اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا).

(۵) سلمان رضی اللہ عنہ یوں تکبیرات کہتے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا“ (بیہقی ۳۱۶/۳).

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح ترین قول سلمان رضی اللہ عنہ کا ہے.

تمثیہ: رسول اللہ ﷺ سے الفاظ تکبیرات کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ“.

اس حدیث کو امام ذہبی نے سخت ضعیف بلکہ موضوع (من گھڑت) کہا ہے۔ لہذا ان الفاظ

کو آپ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔

نماز عید کا طریقہ:

رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبہ میں لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتے اور حکم دیتے پھر واپس لوٹتے۔ (بخاری، العیدین، باب الخروج الى المصلی بغیر منبر، ۹۵۶۔ مسلم، صلاة العیدین، ۸۸۹)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بیشک رسول اللہ ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی اول رکعت میں سات تکبیرات کہتے اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات کہتے۔

(ابو داؤد: الجمعة، باب: التکبیر فی العیدین: ۱۱۴۹، ترمذی: ۱۰۵۳۶، سے امام احمد اور علی بن مدینی نے صحیح کہا) ہر تکبیر پر رفع الیدین کریں اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں۔ امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرأت پڑھے، اور مقتدی چپ چاپ سنیں۔

امام بیہقی رحمہ اللہ نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع الیدین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ (ابو داؤد، الصلاة،

باب رفع الیدین فی الصلاة، ۷۲۲۔ ابن الجارود نے اسے صحیح کہا۔ مسند احمد (۲/۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۶۱۷) اور دارقطنی (۱/۲۸۹)

رسول اللہ ﷺ، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم میں پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے۔

(بخاری، العیدین، باب الخطبة بعد العید، مسلم، صلاة العیدین، حدیث ۸۸۴)

عیدین کا خطبہ منبر پر نہ پڑھیں۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید گاہ میں منبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا۔ (بخاری، العیدین: ۹۵۶، مسلم: صلاة العیدین: ۸۸۹)۔ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: ”تم نے عید کے روز منبر لاکر

سنت کی مخالفت کی کیونکہ اس روز اسے نہیں لایا جاتا تھا، اور تم نے خطبہ کو نماز سے پہلے پڑھ کر (سنت کی مخالفت کی) (ابوداؤد الصلوة، باب: الخطبة يوم العيد: (۱۱۴۰) ابن ماجه اقامة الصلوة، باب

ما جاء في صلوة العیدین (۱۲۷۵)

عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہوگی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو اپنا لیا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی وہ محض گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی ہے“ (بخاری، العیدین، باب الخطبة بعد العید ۹۶۵ - مسلم، الاضحیٰ، باب وقتها، ۱۹۶۱)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے“ (بخاری، العیدین، باب کلام الامام والناس فی خطبة العید، ۹۸۵ - مسلم، الاضحیٰ، باب وقتها، ۱۹۶۰)



نماز سفر

سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی چار چار فرض رکعتوں کو دو، دو پڑھنا قصر (کم کرنا) کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ جو شخص سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ از روئے شریعت مسافر ہے۔ اور اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے۔

سفر کی مسافت:

رسول اللہ ﷺ جب تین میل یا تین فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز دو رکعتیں پڑھتے۔

(مسلم: ۶۹۱)

اس حدیث میں راوی حدیث نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے تین میل یا تین فرسنگ کہا ہے۔ یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ ﷺ تین میل کی مسافت پر قصر کرتے تھے یا تین فرسنگ (نومیل) پر۔ پس مسافر کو چاہیے کہ اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود ۹ میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز دو رکعتیں پڑھیں۔ (بخاری، الحج، باب من بات بذی الحلیفہ حتی أصبح

۱۰۵۴۷، و مسلم، صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين و قصرها، ۶۹۰، واللفظ لمسلم)

ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے چھ میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی رحمت ﷺ مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پس آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی۔

مسافر بغیر خوف کے قصر کرے:

یعلیٰ بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: ۱۰۱).

”اور جب تم سفر میں ہو اور اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں۔“
 آج ہم امن میں ہیں نماز قصر کیوں کریں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ مجھے بھی یہی تعجب ہوا
 جیسے تمہیں تعجب ہوا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ”(امن کی حالت
 میں قصر کی اجازت دینا) اللہ کا احسان ہے اسے قبول کرو۔“

(مسلم، صلوٰۃ المسافرین، باب صلوٰۃ المسافرین وقصرها: ۴۸۶)

حارث بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں منیٰ میں قصر نماز پڑھائی حالانکہ
 ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے۔

(بخاری: الحج، باب: الصلاة بمنى: ۱۶۵۶، مسلم: صلاة المسافرین، باب: قصر الصلاة بمنى: ۶۹۶)

قصر کی حد:

اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے کہ آج جاؤں گا یا کل۔ تو نماز قصر کرتا رہے۔ خواہ
 کئی مہینے لگ جائیں۔ انس رضی اللہ عنہ عبد الملک بن مروان کے ہمراہ دو ماہ (بحیثیت متردد مسافر) شام
 میں رہے اور نماز دو رکعتیں پڑھتے رہے۔ (بیہقی ۱۵۲/۳)

ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ہم غزوہ کی
 غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں۔ کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: دو
 رکعتیں ہی پڑھا کرو خواہ تمہیں (کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے) دس سال قیام کرنا پڑے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ)

اور اگر انیس دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے۔ اور اگر انیس روز سے زائد
 ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر نماز پوری پڑھنی چاہیے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سفر کیا۔ پھر آپ انیس دن ٹھہرے اور دو دو رکعتیں نماز پڑھتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اگر ہم کسی منزل میں انیس دن ٹھہرتے ہیں تو دو دو رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور جب اس (انیس دن) سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو چار رکعات پڑھتے ہیں۔ (بخاری، تقصیر الصلاة، باب ماجاء فی التقصیر: ۱۰۸۰)

سفر میں اذان اور جماعت:

مالک بن حورث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ: ”جب تم سفر پر جاؤ اور نماز کا وقت ہو جائے تو اذان اور اقامت کہو پھر تم میں جو بڑا ہو وہ اقامت کرائے“۔

(بخاری، الاذان، باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة: ۶۳۰)

سفر میں دو نمازیں جمع کرنا:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دوران سفر ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھتے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔

(بخاری، تقصیر الصلاة، باب: الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء: ۱۱۰۷)

جمع کی دو صورتیں ہیں:

جمع تقدیم: یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا۔

جمع تاخیر: یعنی عصر کے ساتھ ظہر اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اس وقت جمع فرما لیتے اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو موخر کر کے عصر کے ساتھ ادا فرماتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھ لیتے اور اگر سورج غروب ہونے سے

پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو موخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔

(ابوداؤد: صلاة السفر، باب: الجمع بين الصلاتين: ۱۲۲۰، ترمذی: الجمعة، باب: في الجمع بين الصلاتين:

۱۰۵۳، اسے امام ابن حبان (۳۱۳/۴) نے صحیح کہا)۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ عشاء کا وقت داخل ہو جاتا پھر آپ مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھتے“ (بخاری: تفصیر الصلوٰۃ، باب: یصلی المغرب ثلاثاً فی السفر: ۱۰۹۱،

و مسلم: صلوٰۃ المسافرین، باب: جواز الجمع بین الصلوٰتین فی السفر: ۷۰۳)۔

سفر میں سنتوں کا بیان:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ”میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سفر میں رہا۔ مگر آپ نے دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمالی۔ اور میں ابو بکرؓ عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ہمراہ سفر میں رہا۔ ان سب نے سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے“ (بخاری: تفصیر الصلاة: باب من لم یر يتطوع فی السفر دبر الصلاة: ۱۱۰۲، ۱۱۰۱، مسلم: صلاة

المسافرین: باب صلاة المسافرین و قصرها: ۶۸۹)

ابن عمر رضی اللہ عنہما دو رکعتیں (یعنی نماز قصر) پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ حفص کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان! اگر اس کے بعد آپ دو رکعتیں (سنت) پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟؟ فرمایا: اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو (فرض) نماز ہی پوری پڑھ لیتا۔

(مسلم: صلاة المسافرین: باب قصر الصلاة بمنی: ۶۹۴)



دو نمازوں کا جمع کرنا

(۱) حج کے دوران میدان عرفات میں:

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے“ (بخاری: الحج، باب: الجمع بین الصلاتین بعرفة: ۱۶۶۲)۔

(۲) مزدلفہ میں:

ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا“ (بخاری: الحج، باب: من جمع بینہما ولم يتطوع: ۱۶۷۴، مسلم: ۱۲۸۷)۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں ایک اذان اور دو اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کیں اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھیں۔ (مسلم: الحج، باب حجة النبی ﷺ: ۱۲۱۸)

(۳) بارش یا خوف کے علاوہ کسی ضرورت کے تحت:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا۔ حالانکہ وہاں (دثمن کا) خوف تھا اور نہ ہی بارش۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ ﷺ اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ (بخاری: مواقیب الصلاة، باب: تأخیر الظہر إلی العصر: ۵۴۳، مسلم: صلاة المسافرين، باب: الجمع بین الصلاتین فی الحضرة: ۷۰۵)۔

عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے۔ کسی نے کہا کہ نماز (مغرب) کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ”مجھے سنت نہ سکھاؤ“ میں نے رسول اللہ ﷺ

کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے ان کی تصدیق کی۔ (مسلم: ۷۰۵)۔

بیماری کی شدت میں اگر مریض کو نمازوں کی وقت پر ادائیگی میں تکلیف ہوتی ہو یا جان، مال یا عزت کا خوف ہو تو نمازیں جمع کی جاسکتی ہیں۔

اس کا ایک طریقہ ابو شعناء جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ کر دونوں نمازوں کو جمع کیا، اسی طرح مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ کر دونوں نمازوں کو جمع کیا (بخاری: ۱۱۷۴)۔

یعنی کہ ناگزیر قسم کے حالات میں حالت اقامت میں بھی دو نمازیں جمع کر کے پڑھی جاسکتی ہیں۔ تاہم شدید ضرورت کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں۔ جیسے کاروباری لوگوں کا عام معمول ہے کہ وہ سستی یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں بلکہ سخت گناہ ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا ضروری ہے، سوائے ناگزیر حالات کے۔ (ص، ی)



نماز استخارہ کا بیان

جب کسی کو کوئی (جائز) امر درپیش ہو اور وہ اس میں متردد ہو کہ اسے کروں یا نہ کروں یا جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح استخارہ کی دعا سکھاتے تھے جس طرح قرآن حکیم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے: ”جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل ادا کرے پھر فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَايِشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَايِشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ“.

”اے اللہ! تحقیق میں (اس کام میں) تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور (حصول خیر کے لیے) تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں، بے شک تو (ہر چیز پر) قادر ہے اور میں (کسی چیز پر) قادر نہیں۔ تو (ہر کام کے انجام کو) جانتا ہے اور میں (کچھ) نہیں جانتا اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں) میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے

انجام کار کے لحاظ سے براہے تو اس (کام) کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں (کہیں بھی) ہو۔ پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔‘ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ پھر اپنی حاجت بیان کرو‘ (بخاری: التہجد، باب: ما جاء فی التطوع مثنی مثنی: ۱۱۶۲)۔

بعض لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے سپیشلسٹ پیدا کر دیئے ہیں حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا صرف خلاف سنت ہی نہیں بلکہ کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے خصوصاً جبکہ استخارہ کروانے والا اس نیت سے استخارہ کرواتا ہے کہ مجھے ان ”بزرگوں“ سے کوئی کچی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا جسے بعد میں وہ من و عن سچا جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے کہ ضرورت مند خود استخارہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا مزید تسلی چاہتا ہے تو کسی اچھے شخص سے مشورہ کر لے پھر وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ (محمد عبدالجبار)

جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کرے گا اور برائی سے بچائے گا۔

استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، سوائے اوقات مکروہہ کے۔



نماز کسوف : (سورج اور چاند گرہن کی نماز)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہیں۔ کسی کے مرنے، جینے (یا کسی اور وجہ) سے نمودار نہیں ہوتے۔ بلکہ اللہ (اپنے) بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا، استغفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو“

(بخاری، کسوف، باب الذکر فی الكسوف، ۱۰۵۹، و مسلم، کسوف، باب ذکر النداء بصلاة الكسوف، ۹۱۲)

اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند اسی وقت گرہن ہوتے ہیں جب کوئی اہم شخصیت پیدا ہو یا وفات پائے یا دنیا میں کوئی اہم واقعہ رونما ہو، نبی اکرم ﷺ نے اسی باطل عقیدے کی نفی فرمائی۔ یعنی سورج یا چاند کے گرہن ہونے کا تعلق کائنات کے واقعات سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہے اور وہ اللہ جو تمہارے سامنے انہیں بے نور کر سکتا ہے وہ قیامت کے قریب بھی انہیں بے نور کر کے لپیٹ دینے پر قادر ہے۔ لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ واللہ اعلم (ع، ر)

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ ﷺ نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا: ((الصلاة جامعة)) ”نماز جمع کرنے والی ہے۔ (تمہیں بلا رہی ہے) (بخاری، کسوف، باب النداء، الصلاة جامعة، فی الكسوف، ۱۰۴۵، و مسلم، ۹۱۰)

سورج گرہن کی نماز کا طریقہ:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ آپ نے باجماعت دو رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے سورۃ البقرۃ تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا پھر لمبا رکوع کیا۔ پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا (رکوع کے بعد قومہ کرنے کی بجائے دوبارہ قراءت شروع کر دینا ایک ہی رکعت کا تسلسل ہے لہذا اس موقع پر نئے سرے سے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، واللہ اعلم [ع، ر])۔ پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا۔ پھر (قومہ کر کے) دو سجدے کئے۔ پھر

کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، پھر دو رکوع کئے پھر دو سجدے کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی تعریف اور ثنائیاں کی اور فرمایا: ”سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ (دوران نماز) میں نے جنت دیکھی، اگر میں اس میں سے ایک انگور کا خوشہ لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے اور میں نے دوزخ (بھی) دیکھی، اس سے بڑھ کر ہولناک منظر میں نے (کبھی) نہیں دیکھا۔ (اور) میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے (عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں ہیں) آپ نے فرمایا: وہ کفر کرتی ہیں عرض کی گئی کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اگر تو ایک مدت تک ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو کہتی ہیں کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی“ (بخاری، الکسوف، باب صلاة الکسوف جماعة ۱۰۵۲۔ مسلم)

الکسوف، باب ما عرض علی النبی ﷺ فی صلاة الکسوف من امر الحنة والنار، ۹۰۷۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی محسن کی احسان فراموشی گناہ کبیرہ ہے۔ جب کسی بندے کی احسان فراموشی کبیرہ گناہ ہے تو جو خالق کی احسان فراموشی کرتا ہے اس کا گناہ کس قدر خطرناک ہوگا؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین۔ (ع)

سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ ﷺ گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے، اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کے زمانے میں (ایک دفعہ) سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتہ لے لیا۔ بعد میں چادر مبارک آپ کو پہنچائی گئی۔ اسماء رضی اللہ عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی کھڑی رہیں۔ (مسلم: ۹۰۶)۔

آپ کا گھبرانا اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا۔ جب آپ اللہ کے پیارے نبی ہو کر گھبرا اٹھتے تھے تو افسوس ہے ان امتیوں پر جو بارہا گناہوں کے باوجود ایسے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ (ع، ر)
 جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی رحمت ﷺ کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن ہوا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے۔ (مسلم: ۹۰۴)

اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے (عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے) غش آ گیا۔ میں نے برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کر سر پر ڈالا۔

(بخاری، الجمعة، باب من قال فی الخطبة بعد الشاء: (اما بعد)، ۹۲۲، و مسلم: ۹۰۵)

قارئین کرام غور فرمایا آپ نے! کہ نبی رحمت ﷺ کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی۔ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہوں۔



نماز استسقاء

اگر قحط سالی ہو جائے، مینہ نہ برسے تو اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن تجویز کر کے سورج نکلنے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور گریہ زاری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلیں اور منبر بھی رکھا جائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے، خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے، عاجزی اور گریہ زاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز (استسقاء) کی جگہ پہنچے۔“

(ابوداؤد، صلاة الاستسقاء، ۱۱۶۵۔ ترمذی، الجمعة، باب ماجاء فی صلاة الاستسقاء، ۵۵۷۔ امام ترمذی)

امام ابن خزیمہ (حدیث ۱۴۰۵، ۱۴۰۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰) امام ابن حبان (حدیث ۶۰۳) امام حاکم (۳۲۶/۱) اور امام نووی نے اسے صحیح کہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عید گاہ میں منبر رکھنے کا حکم دیا۔ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ نکلے اور منبر پر بیٹھے، اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی، پھر فرمایا: ”تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو حکم ہے کہ تم اس کو پکارو اور اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے،“ پھر فرمایا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ - اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ“.

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو (سچا) معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو سخی اور بے پرواہ ہے اور ہم (تیرے) محتاج اور فقیر (بندے) ہیں ہم پر

بارش برس اور جو بارش تو نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور (مقاصد تک) پہنچنے کا ذریعہ بنا“ (ابوداؤد الاستسقاء، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، ۱۱۷۳۔ امام حاکم (۲۶۸/۱) ابن حبان (۶۰۴) اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)۔

اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین ﷺ اور ان کے پاک باز صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اپنا سخی اور داتا صرف اللہ ہی کو سمجھتے تھے، وہ اسی کے در کے محتاج، اسی سے ڈرنے والے براہ راست اسی سے دعائیں مانگتے رہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی ہے (فاطر ۳۵/۱۴ و ۱۵) لہذا ہم گناہ گاروں کو بھی چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق صرف اللہ ہی کو اپنا سخی اور داتا مانیں اور اس سے براہ راست دعائیں مانگیں۔ یہی نبی اکرم ﷺ سے سچی محبت اور ان کی اطاعت کا تقاضا ہے۔ (ع، ر)

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو دراز کیا، حتیٰ کہ بغلیں دکھائی دیں۔ (بخاری، الاستسقاء، باب رفع الامام یدہ فی الاستسقاء، ۱۰۳۱۔ مسلم، صلاة الاستسقاء، باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء، ۸۹۵)۔

رسول اللہ ﷺ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرہ کے سامنے کیا ہوا تھا اور ہاتھ سر سے اونچے نہیں تھے۔ (ابوداؤد، الاستسقاء، باب رفع الیدین بالدعاء فی الاستسقاء، ۱۱۶۸۔ امام ابن حبان (حدیث: ۶۰۲ و ۶۰۱) نے اسے صحیح کہا)

آپ ﷺ کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی۔ (مسلم: ۸۹۵)

پھر امام لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے قبلہ رخ ہو جائے۔ (اور ہاتھ اٹھائے رکھے) اور مندرجہ ذیل دعائیں بڑی عاجزی سے رو رو کر پڑھے۔ اور سب لوگ بھی بڑے خضوع سے آبدیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ دعائیں یہ ہیں:

”اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا“۔

”اے اللہ! ہمیں پانی پلا، اے اللہ! ہمیں پانی پلا، اے اللہ! ہمیں پانی پلا“۔

(بخاری الاستسقاء: ۱۰۱۳)

”اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ“۔
 ”اے اللہ! ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بچھا دے۔ ہلکی پھواریں
 بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی ہونے کہ نقصان پہنچانے والی، جلد آنے والی ہونے کہ دیر لگانے
 والی“ (ابوداؤد: ۱۱۶۹۔ امام ابن خزیمہ (۱۴۱۶) امام حاکم (۳۲۷/۱) اور ذہبی نے اسے صحیح کہا)
 ”اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ أَلْمِيَّتَ“۔
 ”اے اللہ! اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر، اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ شہروں کو
 زندہ کر دے“ (ابوداؤد: ۱۱۷۶) اس کی سند حسن ہے

صلوٰۃ استسقاء میں ایک اہم مسئلہ چادر کا پلٹنا ہے۔ عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ استسقاء کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے، آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور
 قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے پھر اپنی چادر کو پلٹا پھر ان کو دو رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں بلند
 آواز سے قراءت کی۔

(بخاری الاستسقاء، باب کیف حول النبی ﷺ ظهرہ الی الناس، ۱۰۲۵، و مسلم، صلاۃ الاستسقاء، ۸۹۴)

آپ ﷺ پر سیاہ چادر تھی آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا مگر مشکل پیش آئی تو آپ
 نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا۔

(ابوداؤد، صلاۃ الاستسقاء، حدیث ۱۱۶۴۔ امام ابن خزیمہ (۱۳۱۶) اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا)

یعنی چادر پلٹتے وقت چادر کا دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بائیں کنارہ دائیں کندھے پر
 ڈال دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے قبلہ رخ ہو کر چادر کو پلٹا، اس کے اندر کا حصہ باہر کی طرف کیا اور صحابہ

کرام نے بھی آپ کے ساتھ چادروں کو پلٹا۔ (مسند احمد ۴/۴۱، ۱۶۵۷۹) (ابن دمیق العید نے اسے صحیح کہا)۔
نبی اکرم ﷺ نے نماز عید کی طرح لوگوں کو دو رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی۔

(ترمذی 'الجمعة' باب ماجاء فی صلوة الاستسقاء (۵۵) و ابو داؤد 'الاستسقاء' (۱۱۶۵) اسے امام ترمذی
امام ابن خزیمہ (۱۴۰۵) اور امام نووی نے صحیح کہا)

عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ سے
پہلے نماز پڑھائی (مسند الامام احمد ۴/۱۶۵۸۰)
جمہور کا عمل اسی پر ہے مگر خطبہ نماز سے پہلے بھی جائز ہے۔

(ابن خزیمہ 'جماع ابواب صلوة الاستسقاء باب الخطبة قبل صلوة الاستسقاء حدیث ۱۴۰۷)
عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو رکعتیں
(استسقاء) کی پڑھائیں اور ان میں تلاوت بلند آواز سے کی اور نماز استسقاء بغیر اذان اور
اقامت کے پڑھائی۔ (بخاری 'الاستسقاء' باب الدعاء فی الاستسقاء قائمًا: ۱۰۲۲)
ابن بطلال نے کہا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز استسقاء میں اذان اور اقامت
نہیں ہے۔



نماز اشراق و چاشت (ضحیٰ)

ضحیٰ کے معنی ہیں دن کا چڑھنا اور اشراق کے معنی ہیں طلوع آفتاب۔ پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز)۔

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ضحیٰ کی نماز پڑھتے دیکھا تو کہا بیشک یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کے علاوہ نماز پڑھنا افضل ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہوں“۔

(مسلم، صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ الاوابین، حین ترمض الفصل: ۷۴۸)

مغرب اور عشا کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ روایت مرسل یعنی ضعیف ہے۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے (جسم کے) ہر بند (جوڑ) کے بدلے صدقہ خیرات کرے۔ پس سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب چیزوں سے ضحیٰ کی دو رکعتیں کفایت کرتی ہیں“ (مسلم، صلاۃ المسافرین، باب استحباب صلاۃ الضحیٰ و ان اقلھا رکعتان: ۷۲۰)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے! اے آدم کے بیٹے خالص میرے لیے چار رکعتیں اول دن میں پڑھ (یعنی اشراق کی) میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا“۔

(ابوداؤد، التطوع، باب صلاۃ الضحیٰ، حدیث ۱۲۸۹ و ترمذی، الصلاة، باب ماجاء فی صلاۃ الضحیٰ:

(۴۷۴) (حافظ ذہبی نے اسے حسن اور قوی الاسناد جبکہ امام ابن حبان نے صحیح کہا)۔

کفایت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تیرے کام سنواروں گا۔ واللہ اعلم (ع) (ر)
 معاذہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا رسول اللہ ﷺ نمازِ ضحیٰ کی کتنی رکعتیں
 پڑھتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: چار رکعتیں اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ (اس سے) زیادہ
 (بھی) پڑھتے“ (مسلم: ۷۱۹)

ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور آٹھ رکعت
 نمازِ ضحیٰ پڑھیں۔ (بخاری، التہجد، باب صلاة الضحی فی السفر: ۱۱۷۶، و مسلم: الحیض، باب: تستر
 المغتسل بثوب: ۳۳۶)

معلوم ہوا کہ چاشت (ضحیٰ) کی رکعتیں دو چار یا آٹھ ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھے میرے پیارے دوست نبی رحمت ﷺ نے تین چیزوں کی
 وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا: ہر (عربی) مہینہ (میں) ۱۳، ۱۴ اور
 ۱۵ کے تین روزے چاشت کی دو رکعتیں اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔

(بخاری، التہجد، باب صلاة الضحی فی الحضرم: ۱۱۷۸، و مسلم: ۷۲۱)

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک کام کو چھوڑ دیتے حالانکہ
 آپ کو اس کا کرنا پسند ہوتا تھا، آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کام کو کرنے
 لگ جائیں پھر وہ ان پر فرض ہو جائے“۔

(بخاری: أبواب التہجد، باب: تحریض النبی علی صلاة اللیل: ۱۲۸، و مسلم: ۷۱۸)۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد نماز چاشت کے فرض ہونے کا خوف ختم ہو گیا، جس
 خوف کی بنا پر رسول اکرم ﷺ کبھی چاشت کی نماز ادا کرتے اور کبھی نہ کرتے، اب یہ نماز
 ہمارے لیے مستحب ہے۔

فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور سورج نکلنے کے بعد دو رکعت پڑھنا:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج نکلنے تک بیٹھا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا (سورج نکلنے کے بعد) دو رکعت نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرہ کے برابر ثواب ہے“ آپ نے فرمایا: ”پورے حج اور عمرہ کا، پورے حج اور عمرہ کا، پورے حج اور عمرہ کا“ (ترمذی: الجمعة، باب: ذکر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس: ۵۸۶)۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ جب فجر کی نماز ادا کرتے تو سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھتے، جب سورج طلوع ہوتا تو آپ جانے کے لیے کھڑے ہوتے“ (مسلم: ۶۷۰)۔



نماز تسبیح

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے چچا عباس! کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو (درج ذیل عمل کی وجہ سے) دس اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں؟ کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرمادے؟ (وہ یہ) کہ:

آپ چار رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات پندرہ بار پڑھیں: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“۔

پھر آپ رکوع میں جائیں (تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر) رکوع میں ہی انہی کلمات کو دس بار دہرائیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور (سمع اللہ لمن حمدہ / وغیرہ سے فارغ ہو کر) دس بار یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ میں جائیں (سجدہ کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد) یہی کلمات دس بار پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں (اور اس جلسہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے) دس بار انہی کلمات کو دہرائیں اور پھر (دوسرے) سجدے میں چلے جائیں۔ (پہلے سجدے کی طرح) دس بار پھر اس تسبیح کو ادا کریں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں (اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر) دس بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ ایک رکعت میں کل ۵۷ تسبیحات ہوں اسی طرح چاروں رکعات میں یہ عمل دہرائیں۔

اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ ایک بار پڑھیں؛ اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو

ہفتہ میں ایک بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو مہینے میں ایک بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار اگر آپ سال میں بھی ایک بار ایسا نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں“ (ابوداؤد، ابواب التطوع، باب صلاة التسيح، ۱۲۹۷۔ ابن ماجہ، اقامة الصلاة، باب ماجاء في صلاة التسيح، ۱۳۸۶، امام ابن خزيمہ (۱۲۱۶) اور حاکم (۳۱۸/۱) نے اسے صحیح کہا)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر حسن درجہ کی ہے، شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے کیونکہ اس کے بہت سے طرق ہیں۔ علامہ مبارک پوری اور شیخ احمد شاہ نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ جبکہ خطیب بغدادی، امام نووی اور ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے۔

یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تہنیت کو باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی اکرم ﷺ نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے لہذا جو مسلمان نماز تہنیت ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تہنیت کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے۔ اور یہ رو بہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پر توجہ نہ دے مگر نماز تہنیت (باجماعت) ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہے، لہذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے پھر وہ نماز تہنیت پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا ان شاء اللہ العزیز (ع)۔

نوٹ: نماز تہنیت میں تہنیت، تشہد میں التحيات سے پہلے پڑھیں۔ بخلاف دوسرے ارکان کے۔

نماز تہنیت کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے اس کے راوی عبدالقدوس بن حبیب کو حافظ بیہوشی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے۔



صلاة التوبه

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طالب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے“ (أبو داود: الوتر، باب: فی الاستغفار: ۱۵۲۱، ترمذی: ۴۰۶، ترمذی نے حسن کہا).

لیلة القدر کے نوافل:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے لیلة القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے. (بخاری: الإیمان، باب: قیام لیلة القدر من الإیمان: ۳۵، مسلم: الصلاة المسافرین، باب: الترغیب فی قیام رمضان: ۷۶۰).

پندرھویں شعبان کے نوافل

پندرھویں شعبان کی رات (شب برأت) کے نوافل کے لیے قیام کرنے اور جاگنے کا اہتمام کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں۔ اسی طرح صرف پندرہ شعبان کو روزہ رکھنے والی روایت سخت ضعیف ہے۔



احکام الجنائز

بیماری:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں (۱) (جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے) سلام کا جواب دے۔ (۲) جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ (۳) جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ (۴) جب دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ (۵) اگر وہ چھینک پر (الْحَمْدُ لِلَّهِ) کہے تو جواب میں ((بِرَحْمَتِ اللَّهِ)) کہے۔ (بخاری، الجنائز باب

الامر باتباع الجنائز: ۱۲۴۰۔ مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام: ۲۱۶۲)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں (دوپہر سے پہلے) عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں (دوپہر کے بعد) عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں نیز اس کے لیے بہشت میں باغ ہے“ (ترمذی، الجنائز، باب ماجاء فی فضل العیادة: ۹۶۹، ابوداؤد، الجنائز، باب

فی فضل العیادة علی وضوء: ۳۰۹۹۔ استاین حبان (۷۱۰) امام حاکم (۳۳۲/۱) اور حافظ ذہبی نے صحیح کہا)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے: ”مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے“۔

(مسلم، البر والصلوة، باب فضل عیادة المریض: ۲۵۶۸)

بیماری سے گناہ دور ہوتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے

تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے“ (بخاری، المرضی، باب ماجاء فی کفارة المرض: ۵۶۴۵)

آپ نے فرمایا: ”مسلمان کو رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا (بھی) لگتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے“۔

(بخاری: ۵۶۴۰، مسلم: البر والصلة، باب ثواب المؤمن فیما یصبہ من مرض أو حزن...: ۲۵۷۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں“۔

(بخاری: المرضی، باب شدة المرض: ۵۶۴۷ و مسلم: ۲۵۷۱)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”بخار (ہو جائے تو اس) کو برانہ کہو کیونکہ بخار آدمی کے گناہ اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے“ (مسلم: ۲۵۷۵)

نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو ان اعمال کے برابر اجر دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا“۔

(بخاری: الجهاد والسير، باب یکتب للمسافر مثل ماکان یعمل فی الاقامة: ۲۹۹۶)

بیماری میں صبر کی فضیلت:

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں (آنکھوں) میں آزما تا ہوں (اسے بینائی سے محروم کرتا ہوں) پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا“ (بخاری: المرضی، باب فضل من ذهب بصره: ۵۶۵۳)

عطاء روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت دکھلاؤں۔ میں نے کہا دکھلاؤ تو ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس یہ کالی عورت آئی اور عرض کی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا ستر کھل جاتا ہے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا: ”اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر چاہے تو دعائے دیتا ہوں“ وہ کہنے لگی ”میں صبر کروں گی“ پھر کہا ”میرا ستر کھل جاتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ

کھلے۔ (تاکہ میں بے پردہ نہ ہوؤں)“ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

(بخاری: المرضی، باب فضل من یصرع من الريح: ۵۶۵۲۔ مسلم، البر والصلة، باب ثواب المؤمن فیما

یصبیه، من مرض او حزن: ۲۵۷۶۶)

عیادت کی دعائیں:

جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئی مندرجہ ذیل دعائیں اس کے حق میں کریں:

پہلی دعا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر سات مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے الا یہ کہ اس کی موت کا وقت ہی آچکا ہو“۔

”أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ“

”میں عظیم و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے“۔

(ابوداؤد، الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة: ۳۱۰۶۔ اسے ابن حبان، امام حاکم (۱/۳۳۲/۳۱۶) اور

امام نووی نے صحیح کہا)

دوسری دعا:

رسول اللہ ﷺ ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے یہ کلمات کہے: ”لَا بَأْسَ طُهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ“۔

”ڈرنہیں (غم نہ کر) اگر اللہ نے چاہا تو (یہی بیماری تجھے گناہوں سے) پاک کرنے والی

ہے“ (بخاری: المرضی، باب: عيادة الأعراب: ۵۶۵۶)

تیسری دعا:

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت ﷺ مریض (کے جسم) پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے:

”أَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا“.

”اے انسانوں کے رب! بیماری کو دور کر اور شفا دے۔ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا (دے) جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی“ (بخاری: الطب، باب: مسح الراقی الوجع بیده الیمنی: ۵۷۵۰، ومسلم: السلام، باب: استحباب رقية المريض: ۲۱۹۱)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی مسلمان کو تکلیف (مصیبت یا نقصان) پہنچے تو وہ یہ کہے: ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ“ اللَّهُمَّ اجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا“.

”ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور نعم البدل (دونوں) عطا فرما“ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرمادیتا ہے۔ (مسلم: الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة: ۹۱۸)

چوتھی دعا معوذات کا دم:

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی رحمت ﷺ بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات سے (قرآن کی آخری دو سورتیں) دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ جب آپ بہت بیمار ہوئے تو میں معوذات پڑھ کر رسول اللہ ﷺ پر بیماری کی حالت میں پھونکتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیرتی کیونکہ آپ کے ہاتھ مبارک میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ (بخاری: فضائل القرآن، باب فضل المعوذات: ۵۰۱۶، ومسلم: السلام، باب رقية المريض: ۲۱۹۲)

پانچویں دعا:

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے جسم کے درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو پھر بسم اللہ کہو اور سات دفعہ یہ کلمات پڑھو: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأُحَاذِرُ“۔
 ”میں اللہ اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا (محسوس کرتا) ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں“۔

(عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔

(مسلم، السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء: ۲۲۰۲)

چھٹی دعا:

رسول اللہ ﷺ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے:
 ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ“۔
 ”میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ (اس کی) پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور اور ہر نظر بد کی برائی سے“۔
 پھر فرمایا: ”تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام (بھی) ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام کے لیے (اللہ کی) پناہ طلب کیا کرتے تھے (انہیں دم کرتے تھے)“۔

(بخاری: کتاب أحاديث الأنبياء: ۳۳۷۱)۔

ساتویں دعا:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد ﷺ! کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں تو جبریل علیہ السلام نے (یہ) پڑھ کر (آپ پر دم کیا):
 ”بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ

يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ“.

”اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں“ (مسلم، السلام، باب الطب و المرض و الرقی: ۲۱۸۶)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ (۱) اپنے آپ پر خود دم کرنا (۲) جو دم کروانے آئے اسے دم سکھانا کہ وہ خود ہی اپنے آپ پر دم کرے۔ (۳) مریض کے مطالبے کے بغیر اسے دم کرنا (۴) یا مریض کا کسی سے دم کروانا سب جائز ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان صرف آخری جائز (دم کروانا) پر ہی عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو دم کرنے کی سنت تقریباً مفقود ہو چکی ہے کیونکہ اس میں ایک آدھ دعا یاد کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھئے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا انتہائی سعادت کی بات ہے، یہ عین عبادت ہے اور مریض کی دعا تو ویسے بھی بہت قبول ہوتی ہے لہذا اسے چاہیے کہ نہ صرف خود دم کرے بلکہ استغفار کو معمول بنائے اس سے تکلیف سے جلد نجات ملے گی یا درجات بڑھیں گے نیز خوب دعائیں کرے اللہ قبول کرے گا ان شاء اللہ۔ (ع، ر)



تجهيز و تكفين

ابوقنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا: ”راحت پانے والا ہے یا اس سے اوروں نے راحت پائی“ مومن بندہ دنیا کے رنج و مصیبت سے راحت پاتا ہے اور اس ایذا سے اللہ کی رحمت کی طرف آرام پاتا ہے اور فاجر بندہ سے انسان، شہر، درخت اور جانور راحت پاتے ہیں“ (بخاری: الرقاق، باب: سكرات الموت: ۶۵۱۲، مسلم: ۹۵۰)۔

عالم نزع میں تلقین:

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں (لا الہ الا اللہ) کی تلقین کرو“ (مسلم: الجنائز، باب تلقین الموتی (لا الہ الا اللہ) حدیث ۹۱۶، ۹۱۷)۔

یعنی ان کے قریب (لا الہ الا اللہ) پڑھو تا کہ اسے سن کر وہ بھی پڑھیں لیکن افسوس کہ جہلا زندہ قریب المرگ کو تو اس کی تلقین نہیں کرتے البتہ موت کے بعد چار پائی کو کندھا دیتے وقت کہتے جاتے ہیں ”کلمہ شہادت“ حالانکہ خیر القرون کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا پھر یہ آج ہمارے دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ (ع ر)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”جس کا آخر کلام (لا الہ الا اللہ) ہو وہ جنت میں داخل ہوگا“ (ابوداؤد الجنائز، باب فی التلقین: ۳۱۱۶۔ اسے (حاکم/۱/۳۵۱، ۵۰۰) اور ذہبی نے صحیح کہا)۔

کیونکہ اس نے آثار موت دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر (لا الہ الا اللہ) پڑھا لیکن چند ہی لمحوں بعد اللہ کی قضا آگئی اور (لا الہ الا اللہ) اس کی زندگی کا آخری کلام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے آمین۔ (ع ر)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں“ (مسلم: الجنائز، باب ما یقال عند المریض و المیت: ۹۱۹)۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھنا واجب ہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو“ (مسلم: الجنة، باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت: ۲۸۷۷)۔

مکہ یا مدینہ میں مرنے کی تمنا کرنا:

حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: ”اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ“ ”اے اللہ! مجھے شہادت کی موت دے اور مجھے مدینہ رسول میں موت دے“ (بخاری: أبواب فضائل المدينة: ۸۹۰)۔

موت کی آرزو کی ممانعت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موت کی آرزو نہ کرو۔ اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو گے اور اگر بدکار ہو تو شاید توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو گے“ (بخاری: التمني، باب ما يكره من التمني: ۷۲۳۵)۔

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: نہ موت کی آرزو کرو نہ موت کی دعا کرو، کیونکہ جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کی (نیکی کرنے کی) امید ختم ہو جاتی ہے اور مومن کی لمبی عمر سے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں“ (مسلم: الذكر و الدعاء باب كراهية تمنى الموت: ۲۶۸۲)۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا: ”دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو مسافر بلکہ راہی ہے، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر۔ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر۔ تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔

(بخاری: الرقاق، باب قول النبي ﷺ كن في الدنيا كأنك غريب: ۶۴۱۶)۔

خودکشی سخت گناہ ہے:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا اور جو شخص نیزہ چھو کر اپنی جان دیتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا

اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا“ (بخاری: الجنائز، باب ماجاء فی قاتل النفس: ۱۳۶۵، مسلم: ۱۰۹) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے اپنی جان خود لی اس لئے میں نے اس پر جنت حرام کر دی“.

(بخاری: ۳۴۶۳، مسلم: الإیمان، باب: غلط تحریم قتل الإنسان نفسه: ۱۱۳).
جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جس نے خودکشی کی تھی“۔ [مسلم: الجنائز، باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه: ۹۷۸].
لہذا معزز اہل علم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو (ع، ر).
میت کو بوسہ دینا:

جس کا کوئی قریبی دوست، عزیز فوت ہو جائے تو اس کو میت کا فرط محبت سے بوسہ لینا جائز ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات پر آپ کا بوسہ لیا تھا۔
(بخاری: الجنائز، باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه: ۱۲۴۱).

میت پر چادر ڈالنا:

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”جب رسول اللہ ﷺ فوت ہوئے تو ایک دھاری دار یمنی چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا تھا“ (بخاری: الجنائز، باب: الدخول على الميت بعد الموت: ۱۲۴۱).
فوت ہونے والے کے دوستوں اور رشتے داروں کو اس کے مرنے کی اطلاع دینا:
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے مرنے کی اس دن خبر دی جس دن وہ فوت ہوا“ (بخاری: ۱۲۴۵).

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے غزوہ موتہ میں پہلے زید پھر جعفر اور پھر عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی اطلاع دی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے“ (بخاری: الجنائز، باب: الرجل يبعث إلى أهل الميت: ۱۲۴۶).

میت کی آنکھیں بند کرنا:

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو آئے اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، پھر آپ نے ان کو بند کیا اور فرمایا: کہ جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں“ (مسلم: الحنائز، باب: فی أغماض المیت: ۹۲۰)۔

میت کو جلد دفن کرنا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میت کو جلد دفن کرو۔ اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر وہ برا ہے تو اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے“

(بخاری: الحنائز، باب السرعة بالحناءة: ۱۳۱۵۔ مسلم: الحنائز، باب الاسراع بالحناءة: ۹۴۴)

میت کا غسل:

ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم رسول اللہ ﷺ کی بیٹی زینب کو نہلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا: ”اس کو ۳۵ یا ۷ بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار (پانی میں) کچھ کافور بھی ملا لو۔ اور غسل سے فراغت پر مجھے اطلاع کر دینا غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو“ (ام عطیہ کہتی ہیں) ہم نے (غسل کے بعد) اس کے بالوں کی تین چوٹیاں گوندھیں اور ان کو پیچھے

ڈال دیا۔ (بخاری: الحنائز، باب يجعل الكافور في الاخر: ۱۲۵۸، مسلم: الحنائز، باب فی غسل المیت: ۹۳۹)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی۔

میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ”اگر تم مجھ سے پہلے مر گئیں تو میں تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور تم پر نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا“۔ (ابن ماجہ: الحنائز، باب ماجاء فی غسل الرجل امراته و غسل المرأة زوجها: ۱۴۶۵)

یاد رہے کہ غسل میت کا طریقہ بھی تقریباً غسل جنابت والا ہے البتہ غسل کے دوران اکرام میت کا بہت

خیال رکھنا چاہیے، تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں؛ بازو ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر دی جائیں نیز قمیص اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھانپ دیا جائے۔ میت کے بازو گلے یا پنڈلی میں کوئی تعویذ دھاگہ یا کڑا وغیرہ ہو تو اسے اتار دیں۔

(۲) پانی اور بیری کے پتے ابال لیے جائیں پھر نیم گرم پانی استعمال کیا جائے لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس، اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو، میت کو اس تختے پر لٹایا جائے۔ ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے اور دوران غسل، سوائے مجبوری کے میت کی شرمگاہ پر نظر پڑے اور نہ ہی کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ لگے۔

(۳) اگر جسم زخمی ہو اور اس پر پٹیاں بندھی ہوئی ہوں تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخم دھوئے جائیں۔ ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں سوائے اس کے کہ صرف بائیں جانب توجہ کی مستحق ہو۔

(۴) ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ دو یا تین دفعہ دبایا جائے (تا کہ اندر کی گندگی امکانی حد تک خارج ہو جائے) پھر بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ (جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے) پہن کر پہلے مٹی کے تین ڈھیلوں اور پھر پانی سے اس کا استنجا کریں۔ اگر زیناف بالوں کی صفائی باقی ہو تو کر لی جائے۔

(۵) ناک، دانت، منہ کا خلال اور کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی پھیر کر ان کی الگ سے صفائی کر لی جائے تاکہ بعد میں وضو کے دوران تین دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے۔

(۶) بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے (سر کا مسح اور پاؤں رہنے دیں) تین دفعہ اچھی طرح سردھوئیں۔

(۷) حسب ضرورت صابن استعمال کرتے ہوئے پورے جسم کو تین یا پانچ یا سات مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں۔ سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں۔ (محمد عبدالجبار عفی اللہ عنہ)

میت کا کفن

مرد کو تین کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے:

رسول اللہ ﷺ کو تین (سفید) کپڑوں میں کفن دیا گیا اس میں کرتہ تھا نہ عمامہ۔

(بخاری: الجنائز، باب: النیاب البیض للکفن: ۱۲۶۴، مسلم: ۹۴۱)۔

عورت کے کفن میں پانچ کپڑے استعمال ہوتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے کفن کا پانچواں کپڑا وہ ہے جو قمیص کے نیچے رہتا ہے، اس سے عورت کا ستر اور رانیں باندھی جاتی ہیں (بخاری: الجنائز، باب: کیف الاشعار للمیت)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ احرام کی حالت میں ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی تو آپ نے فرمایا کہ ”اس کو پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دو اور دو کپڑوں میں اسے کفن دو“ (بخاری: ۱۲۶۵، مسلم: ۱۲۰۶)۔

اور یہ دو کپڑے وہ ہیں جن میں اس نے احرام باندھا ہوا تھا۔

(النسائی: الجنائز، باب: کیف یکفن المحرم إذا مات: ۱۹۰۴)۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے احد کے شہدا کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو خون آلود (کپڑوں سمیت) دفن کیا جائے اور نہ وہ غسل دیئے گئے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی“ (بخاری: الجنائز، باب: الصلاة علی الشہید: ۱۳۴۳)۔

مرنے سے پہلے اپنا کفن تیار کرنا جائز ہے:

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر تحفہ میں لائی۔ آپ کو اس وقت چادر کی ضرورت تھی آپ نے لے لی اور اس کا تہہ بند بنایا، ایک صحابی (عبدالرحمن بن عوف) کہنے لگے کیا عمدہ چادر ہے آپ مجھ کو دے دیجئے۔ آپ نے

چادر انہیں دے دی، لوگوں نے کہا کہ تم نے رسول اللہ ﷺ سے چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا آپ کو خود ضرورت تھی، عبدالرحمن کہنے لگے: اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، پھر وہ چادر ان کا کفن بنی“ (بخاری: الجنائز، باب: من استعد الكفن في زمن النبي: ۱۲۷۷)۔

میت کا سوگ:

زیب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تین دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو ملا۔ پھر کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی مگر میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے، سوائے شوہر کے جس کا سوگ چار ماہ دس دن ہے۔

(بخاری: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها: ۱۲۸۲، مسلم: ۱۴۸۷)۔

ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا لڑکا فوت ہو گیا۔ تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر بدن پر ملی اور کہا: ”ہمارے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور (کی وفات) پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا ممنوع ہے“۔

(بخاری: ۱۲۷۹)۔

میت پر رونا:

اگر میت کو دیکھ کر رونا آئے اور آنسو جاری ہوں تو منع نہیں، اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے۔ نبی رحمت ﷺ سعد بن عبادہ کی بیہوشی پر روئے صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر روئے پس آپ نے فرمایا سنو: ”اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا بلکہ زبان (کے چلانے اور اوایلا کرنے) سے عذاب کرتا ہے“۔

(بخاری: الجنائز، باب البكاء عند المريض: ۱۳۰۴، مسلم: الجنائز، باب البكاء على الميت: ۹۲۴)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا (اللہ کے ہاں) وہ صبر معتبر ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو۔

(بخاری: الجنائز، باب الصبر عند الصدمة الاولى: ۱۳۰۲، مسلم: الجنائز، باب في الصبر على المصيبة

عند الصدمة الاولى: ۹۲۶)

یعنی واویلا اور بین کرنے کے بعد صبر کرنا، صبر نہیں ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور اظہار غم کے فطری طریقے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا جائے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے“ (یعنی نوحہ اور واویلا کرے)

(بخاری، الجنائز، باب لبس من شق الجيوب: ۱۲۹۴، و مسلم، الايمان، باب تحريم ضرب الخلود و شق الجيوب: ۱۰۳)

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”میں بیزار ہوں اس سے جو (موت کی مصیبت میں) سر کے بال نوچے اور چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے“ (بخاری: الجنائز، باب: ما ينهى من الحلق عند

المصيبة: ۱۲۹۶، مسلم: الايمان، باب: تحريم ضرب الخلود و شق الجيوب: ۱۰۴)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے (اس) مومن بندے کے لیے بہشت ہے جس کے پیارے کو میں اہل دنیا سے قبض کرتا ہوں اور وہ (اس کی موت پر) صبر کرتا ہے۔“ (بخاری، الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله، حديث ۶۴۲۴)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ (۱) (اپنے) حسب پر فخر کرنا۔ (۲) (دوسرے کے) نسب پر طعن کرنا۔ (۳) ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا۔ (۴) نوحہ کرنا۔“ (اور یہ بھی فرمایا) ”اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندھک کا کرتا اور خارش کی اوڑھنی ہوگی“ (مسلم، الجنائز، باب: التشديد في النياحة: ۹۳۴)

اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ ستاروں کی نقل و حرکت اور طلوع و غروب کا بارش اور دیگر زمینی واقعات و حوادث کے ساتھ گہرا تعلق ہے آج کل علم نجوم بھی انہی شرکیہ خرافات سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین، [ع، ر]

رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ابراہیم جب حالت نزع میں تھے تو آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا: ”آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس

(بات) کے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور اللہ کی قسم اے ابراہیم! ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں“ (بخاری: الجنائز، باب: قول النبی ﷺ: ”انا بك لمحزونون“: ۱۳۰۳، مسلم: الفضائل، باب: رحمته ﷺ الصبيان والعيال: ۲۳۱۵)۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبوب کی محبت میں آ کر اپنے فیصلے نہیں بدلتا بلکہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ وہ کسی کی طاقت سے مرعوب ہوتا ہے نہ کسی کی محبت سے مغلوب۔ غفور رحیم ہے تو ہر ایک کے لیے اور اگر بے نیاز ہے تو سب کے لیے۔ (ع، ر)

رسول اللہ ﷺ کا نواسہ فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں پر ہی رحمت کرتا ہے“ (بخاری: الجنائز، باب قول النبی ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه: ۱۲۸۴، مسلم: الجنائز، باب البكاء على الميت: ۹۲۳)۔

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت کے تین بچے مرجائیں اور وہ اللہ کی رضا مندی کی خاطر صبر کرے تو وہ جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے ایک عورت نے پوچھا اگر دو بچے مرجائیں تو؟ آپ نے فرمایا: ”دو بچے بھی“ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ (بخاری: العلم، باب هل يجعل للنساء يوم حدة في العلم: ۱۰۱، مسلم: البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ۲۶۳۳، ۲۶۳۴)۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے پھر ان کا کپڑا یا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کو نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو اور ان کے باپوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔

(مسلم: کتاب البر والصلة: ۲۶۳۵)۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں پر (اپنی) رحمت اور فضل کے سبب اس شخص کو

(یعنی ان کے والد کو) جنت میں داخل کرے گا۔

(بخاری: الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب: ۱۲۴۸)، بشرطیکہ والد کا عقیدہ درست ہو۔ (ع، ر)

اچانک موت:

عبید بن خالد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اچانک موت (کافر کے لیے) اللہ تعالیٰ کی غضب کی پکڑ ہے“ (ابو داؤد: الجنائز، باب: موت الفجاء: ۳۱۱۰، مسند أحمد: ۴/۲۱۹)۔
موت کے وقت پیشانی پر پسینہ:

بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے“ (ترمذی: الجنائز، باب: ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الحبين: ۹۸۲، ترمذی نے حسن کہا)۔

جس گھر میں وفات ہو ان کے ہاں کھانا پکا کر بھجوانا:

عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے جس میں وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے“ (ابو داؤد: الجنائز، باب: صفة الطعام لأهل الميت: ۳۱۳۲، ابن ماجہ: ۱۶۱۰)۔
کتنی بری اور نامناسب بات ہے کہ بعض اہل میت دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔

تعزیت کے مسنون الفاظ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَتَتَحَسَّبْ“۔

”یقیناً اللہ کا (مال) ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے اس کے ہاں ہر چیز (کے فنا ہونے) کا وقت مقرر ہے (لہذا) صبر کر کے اس کا اجر و ثواب حاصل کرو“۔

(بخاری: ۱۲۸۴، مسلم: ۹۲۳)۔

نماز جنازہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جو کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جاتا، اس کے ساتھ رہتا، اس کا جنازہ پڑھتا اور اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے دو قیراط ثواب ہے۔ ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو (صرف) جنازہ پڑھ کر واپس آجاتا ہے تو اس کے لیے ایک قیراط ہے“ (بخاری، الايمان، باب اتباع الجنائز من الايمان: ۴۷،

مسلم، الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنابة و اتباعها: ۹۴۵)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان کے جنازہ میں ایسے چالیس آدمی شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس (میت کے حق) میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے“ (مسلم، الجنائز، باب من صلی علیہ أربعون شفعا فیہ: ۹۴۸)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چار مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں اور اچھی شہادت دیں، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا“، ہم نے عرض کیا ”اور تین؟“ آپ نے فرمایا: ”تین بھی“، ہم نے عرض کیا ”اور دو؟“ آپ نے فرمایا: ”دو بھی۔ پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا“ (بخاری، الجنائز، باب ثناء الناس علی المیت: ۱۳۶۸)۔

یہاں ان مسلمانوں کی گواہی مراد ہے جن کا عقیدہ و عمل اور اخلاق و کردار کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ واللہ اعلم۔ (ع، ر)

نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چار پائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر شمال کی سمت اور پاؤں جنوب کی جانب ہوں، پھر با وضو ہو کر صفیں باندھیں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرد کا جنازہ پڑھایا تو وہ (اس کے) سر کے سامنے کھڑے ہوئے پھر ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو وہ اس کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ

ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔ (ترمذی الجنائز باب ماجاء ابن یقوم الامام من الرجل والمرأة: ۱۰۳۴، أبو داود: الجنائز، باب: أين یقوم الإمام من الميت إذا صلی علیہ: ۳۱۹۴ ترمذی نے اسے حسن کہا)۔
پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور پہلی تکبیر کہہ کر سورت فاتحہ پڑھیں۔

جنائزہ میں سورت فاتحہ:

ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنائزہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے پھر فاتحہ پڑھی جائے پھر نبی رحمت ﷺ پر درود اور میت کے لیے دعا (کی جائے) اس کے بعد سلام (پھیرا جائے) (مصنف عبدالرزاق، باب القراءۃ والدعاء فی الصلاة علی الميت: ۶۴۲۸، ۴۸۹/۳ و ۴۹۰، حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا)

طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنائزہ پڑھی تو آپ نے سورت فاتحہ پڑھی اور فرمایا: میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ (بخاری، الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب: ۱۳۳۵)۔

اس سے جہری قرات بھی ثابت ہوئی، تعجب ہے جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ”فاتحہ“ کے نام لیتے ہیں وہ نماز جنائزہ میں اسے پڑھتے ہی نہیں۔ (ع، ر)

طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنائزہ پڑھا انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک اور سورہ پڑھی اور بلند آواز سے قراءت کی حتیٰ کہ ہم نے سنا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ”یہ سنت اور حق ہے“ (نسائی: الجنائز، باب: الدعاء: ۱۹۸۷، ۷۴/۴ - ۷۵، ابن زکمانی نے صحیح کہا)۔

نماز جنائزہ کا سر اُپر ٹھہانا سنت ہے:

ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنائزہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ سر اُپر ٹھہے پھر تین تکبیرات کہے اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیرا جائے۔

(نسائی (۷۵/۴: ۱۹۸۹) حافظ ابن حجر نے اسے صحیح کہا)

بلند آواز سے بھی جنازہ پڑھایا جاسکتا ہے؛ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں؛ نبی ﷺ نے نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھی جو میں نے یاد کر لی اور میں نے تمنا کی کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔ (مسلم، الجنائز باب الدعاء للمیت فی الصلوة: ۹۶۳)

جنازہ کی تکبیرات:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی رحمت ﷺ نے نجاشی کے جنازہ میں چار تکبیرات کہیں۔ (بخاری، الجنائز، باب التکبیر علی الجنائز، حدیث ۱۳۳۳۔ مسلم، الجنائز، باب فی التکبیر علی الجنائز، حدیث ۹۵۱)

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پر چار تکبیرات کہتے۔ ایک جنازہ پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح بھی کرتے تھے (مسلم، الجنائز، باب الصلاة علی قبر ۹۵۷)

معلوم ہوا تکبیر اولیٰ کے بعد سورت فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ سورت فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر امام کو دوسری تکبیر کہنی چاہیے۔ اور پھر نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں:

پہلی دعا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازہ پر یہ دعا پڑھی:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخِيهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا
تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ“.

”اے اللہ! ہمارے زندہ اور مردے کو چھوٹے اور بڑے کو مرد اور عورت کو حاضر اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ! ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے ایمان پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو

تو فوت کرے اسے اسلام پر فوت کر۔ اے اللہ! ہمیں اس (میت) کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر!“ (ابوداؤد الجنائز: باب الدعاء للمیت، حدیث ۳۲۰۱ سے امام ابن حبان نے صحیح کہا)

دوسری دعاء:

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے جنازہ میں یہ دعا پڑھی:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكِرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاعْبِسْهُ بِالسَّمَاءِ وَالْثَلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ“.

”اے اللہ! اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت میں رکھ، اس سے درگزر فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر فراخ فرما، اس کے (گناہ) پانی، اولوں اور برف سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے۔ اسے اس کے (دنیا والے) گھر سے بہتر گھر (دنیا کے) لوگوں سے بہتر لوگ اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اسے بہشت میں داخل فرما، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا“.

(مسلم، الجنائز: باب الدعاء للمیت فی الصلاة: ۹۶۳)

تیسری دعاء:

”اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ إِحْتِاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ عَنِّي عَنْ عَذَابِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ“.

”اے اللہ! تیرا یہ بندہ، تیری بندی کا بیٹا، تیری رحمت کا محتاج ہے، تو اسے عذاب نہ دے تو تجھے کیا پروا۔ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر گنہگار تھا تو اسے معاف فرما“.

(حاکم (۳۵۹/۱) عاقلہ ذہبی نے اسے صحیح کہا)

جنازہ کے مسائل:

۱- نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے“.

(بخاری، الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع: ۱۳۱۰، مسلم: ۹۵۹).

۲- جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لاؤ تا کہ میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں لوگوں نے تامل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ نے سہیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی۔

(مسلم، الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حدیث ۹۷۳)

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھی گئی نیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ صحیب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں پڑھائی۔ (بیہقی ۵۲/۴)

۳- جس جنازے کے ساتھ خلاف شرع کام ہوں اس کے ساتھ جانا منع ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں“.

(ابن ماجہ: الجنائز، باب: فی النهی عن النباحة: ۱۵۸۳).

۴- مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سوار جنازے کے پیچھے رہے اور پیدل چلنے والے جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے، پیچھے دائیں اور بائیں چل سکتے ہیں“ (أبو داود: الجنائز، باب: المشی أمام الجنازة: ۳۱۸۰. ترمذی نے حسن صحیح کہا).

غائبانہ نماز جنازہ

جس دن نجاشی فوت ہوا۔ رسول اللہ ﷺ صحابہ کے ساتھ نکلے صف بندی کی اور چار تکبیرات کے ساتھ (نماز جنازہ) ادا کی۔

[بخاری: الجنائز، باب الرجل یعنی الی اهل الميت بنفسه: ۱۲۵۴ و مسلم: ۹۵۱]۔

اور فرمایا کہ ”اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ ارض غیر میں فوت ہوا۔

[ابن ماجہ: الجنائز، باب: ما جاء فی الصلاة علی النجاشی: ۱۵۳۷]۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ایک دن باہر نکلے اور احد کے شہداء کے لیے اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھتے ہیں“ (بخاری: ۱۳۴۳، مسلم: الفضائل: ۲۲۹۶)۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے امام شافعی اور احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے۔

مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم میں غائبانہ نماز جنازہ کے معمول نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی غائبانہ نماز جنازہ پوری اسلامی مملکت میں ادا کی جاتی۔ مگر ایسا کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ ابن قیم ابن تیمیہ علامہ ناصر الدین البانی رضی اللہ عنہم اور محققین کی ایک جماعت غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی قائل نہیں ہے۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں: ”اگر غائب پر نماز جنازہ جائز ہوتی تو نبی رحمت ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے اسی طرح شرق و غرب میں رہنے والے مسلمان خلفائے راشدین کی بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے، مگر ایسا کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔“ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا: ”مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ فوت ہوئے جو نبی رحمت ﷺ سے غائب تھے مگر آپ نے ان میں سے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی“۔

قبر پر نماز جنازہ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد (نبوی) میں جھاڑو پھیرا کرتی تھی۔ وہ مرگئی اور نبی اکرم ﷺ کو اس کی موت کا علم نہ ہوا، ایک دن آپ ﷺ نے اس کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ وہ فوت ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ مجھے اس کی قبر بتاؤ“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کو اس کی قبر بتائی۔ پھر آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا: ”یہ قبریں تاریکی اور ظلمت سے بھری ہوتی ہیں۔ میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے“۔

(بخاری، الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن: ۱۳۳۷۔ مسلم، الجنائز، باب الصلاة على القبر: ۹۵۶)

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنے کی بڑی فضیلت ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو ہر قسم کی غیبی خبریں عطا نہیں کی تھیں۔ (ع، ر)

تدفین و زیارت

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے تین اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا:

- (الف) طلوع آفتاب کے وقت حتیٰ کہ بلند ہو جائے۔
- (ب) جب سورج دو پہر کے وقت عین سر پر ہوتی کہ ڈھل جائے۔
- (ج) غروب آفتاب کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔

(مسلم، صلاة المسافرين، باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ۸۳۱)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نماز جنازہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ادا کی جاسکتی ہے۔

(موطا مالک، الجنائز، باب الصلاة علی الجنائز بعد الصبح الی الاسفار: ۲۲۹/۱)

جنگ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ”قبر گہری کھودو اور اسے ہموار اور صاف رکھو“۔ (ترمذی، الجهاد، باب مساجد فی دفن الشهداء: ۱۷۱۳۔ ابو داؤد، الجنائز، باب فی تعمیق القبر: ۳۲۱۵۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا)۔

عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے حارث کا نماز جنازہ پڑھایا پھر میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کیا اور فرمایا کہ یہ سنت ہے۔

(ابو داؤد، الجنائز، باب فی المیت یدخل من قبل رجليه: ۳۲۱۱۔ بیہقی نے اسے صحیح کہا)۔

میت کو قبر میں رکھتے وقت کی دعا:

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت ﷺ جب میت کو قبر میں رکھتے تو کہتے:

”بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“۔

”اللہ کے نام سے اور رسول اللہ ﷺ کے مذہب اور طریقے پر (اسے دفن کرتے ہیں)“۔

(ابو داؤد، الجنائز، باب: فی الدعاء للمیت إذا وضع فی قبر: ۳۲۱۳۔ اسے امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح کہا)۔

انہوں نے یہ سنت بھی ٹٹی چلی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کا متبادل ڈھونڈ رکھا ہے یعنی وہی نعرہ کلمہ شہادت: ”أشهد أن لا إله إلا الله“ (ع)۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ ﷺ کے لیے کیا گیا تھا۔ (مسلم، الجنائز، باب فی اللحد، و نصب اللبن علی المیت: ۹۶۶)۔

آپ ﷺ کی قبر اونٹ کی کوہان جیسی تھی۔

(بخاری، الجنائز، باب ما جاء فی قبر النبی ﷺ و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما: ۱۳۹۰)۔

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت ﷺ جب میت کے دفن سے فارغ ہو

جاتے تو قبر پر کھڑے ہوئے فرماتے: ”اپنے بھائی کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں“۔

(ابو داؤد، الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للمیت: ۳۲۲۱۔ حاکم (۳۷۰/۱) اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)۔

قبر پر بطور علامت پتھر نصب کرنا:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”نبی اکرم ﷺ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر علامت کے طور پر ایک پتھر نصب فرمایا“۔ (ابن ماجہ: الجنائز، باب: ما جاء في العلامة في القبر: ۱۵۶۱)۔

قبر پر مٹی ڈالنا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنازہ کی نماز پڑھی پھر قبر کے پاس آئے اور سر کی طرف سے تین لپ مٹی ڈالی“ (ابن ماجہ: الجنائز: ۱۵۶۵)۔

قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت:

قبروں کو اونچا کرنا، پختہ بنانا، ان پر گنبد اور قبے بنانا حرام ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے پختہ قبریں اور ان پر عمارت (گنبد وغیرہ) بنانے سے منع کیا آپ نے قبر پر بیٹھے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے (بھی) منع فرمایا ہے۔

(مسلم، الجنائز، باب النهی عن تحصيص القبر والبناء عليه: ۹۷۲)۔

چاہے کوئی شخص مجاور بن کر بیٹھے یا چلہ کشی کے لیے سب ناجائز ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔

(ابو داؤد، الجنائز، باب البناء على القبر: ۳۲۲۶۔ حاکم (۳۷۰/۱) اور حافظ ذہبی نے اسے صحیح کہا)۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں ہر تصویر مٹا دوں

اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں۔ (مسلم، الجنائز، باب الامر بتسوية القبر: ۹۶۹)۔

ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے ایک گرجے کا ذکر کیا کہ اس میں تصویریں

لگی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ: ”جب ان لوگوں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہاں تصویریں بناتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے“۔

(بخاری: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة: ۴۲۷، مسلم: ۵۲۸)۔

رسول اللہ ﷺ نے آخری بیماری (مرض الموت) میں فرمایا: ”اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”اگر اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیں گے تو آپ کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی“۔

(بخاری: الجنائز، باب: ما جاء فی قبر النبی ﷺ: ۱۳۹۰، مسلم: المساجد، باب: النهی عن بناء المساجد

على القبور: ۵۲۹)۔

قبروں کی زیارت:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب تم ان کی

زیارت کیا کرو“ (مسلم: الجنائز، باب استئذان النبی ﷺ به عز و جل فی زیارة قبر امہ: ۹۷۷)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی خود بھی روئے اور جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی روئے۔ پھر آپ نے فرمایا: ”میں نے اپنی والدہ کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، مجھے اجازت نہیں ملی، پھر میں نے اس کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی پس مجھے اجازت دے دی گئی پس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے“۔ (مسلم: ۹۷۶)۔

شیخ البانی فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی

مگر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔

رسول اللہ ﷺ ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی آپ نے اسے اللہ

سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری: الجنائز، باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری: ۱۲۵۲)۔

مسلم: الجنائز، باب: فی الصبر علی المصیبة عند الصدمة الاولى: (۹۲۶)۔

اگر عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہوتا تو آپ اس کو قبرستان میں آنے سے بھی منع کر دیتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر کی زیارت کو گئیں ان سے کہا گیا، کیا نبی رحمت ﷺ نے (عورتوں کو) اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی۔ (مسندك حاکم (۳۷۶/۱) اسے حافظ ذہبی نے صحیح اور حافظ عراقی نے جید کہا) عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی رحمت ﷺ سے پوچھا، جب میں قبرستان میں جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے دعا سکھائی۔ (مسلم: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها: ۹۷۴) اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے“ (ترمذی، الجنائز، باب ماجاء فی کراهية زيارة القبور للنساء: ۱۰۵۶۔ ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا)۔

کیونکہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے نیز وہ شرم کی امور میں بھی تیز ہوتی ہیں۔ یہ قبروں کی زیارت اس لیے مشروع نہیں کہ وہاں جا کر شرک و بدعت کے کام کئے جائیں بلکہ قبروں کی زیارت سے موت کو یاد کرنا مقصود ہے۔ (ع)۔

معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بکثرت زیارت تو منع ہے مگر کبھی کبھار جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مردوں کو برا نہ کہو وہ تو آگے بھیجے ہوئے (اعمال) کی طرف چلے گئے ہیں۔ (بخاری، الجنائز، باب ما ينهى من سب الاموات: ۱۳۹۳)

اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا:

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”ایک رات رسول اللہ ﷺ گھر سے نکلے اور (مدینہ کے قبرستان) بقیع پہنچے اور دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ آپ

نے تین بار ایسا کیا۔ پھر واپس آئے، پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ تمہارا رب تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم بقیع کے قبرستان جاؤ اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میں ان کے لیے کیسے دعا کروں تو آپ نے فرمایا یوں کہو:

”السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْحَقُّونَ“.

”مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو۔ ہم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں“.

(مسلم، الحنائز، باب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لاهلها: ۹۷۴)

مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلكُمْ الْعَافِيَةَ“۔ ”میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں“ (مسلم: ۹۷۵)۔

ایصال ثواب کے طریقے:

۱- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین چیزوں کا ثواب میت کو ملتا رہتا ہے۔

۱- صدقہ جاریہ۔ ۲- لوگوں کو فائدہ دینے والا علم۔ ۳- نیک اولاد جو میت کے لیے دعا

کرتے“ (مسلم: الوصیة، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: ۱۶۳۱)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کو مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے اس میں: ۱- وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا۔ ۲- نیک اولاد ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ ۳- قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو سکھائی۔ ۴- مسجد جو تعمیر کرائی۔ ۵- مسافر خانہ۔ ۶- وہ صدقہ جو صحت کی حالت میں اس نے نکالا ان سب کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے“.

(ابن ماجہ: مقدمة، باب: ثواب معلم الناس الخیر: ۲۴۲)۔

۲- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی ماں کی نذر کے بارے میں سوال کیا جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا: اپنی ماں کی طرف سے تم نذر پوری کرو“ (بخاری: الوصایا: ۲۷۶۱، مسلم: النذر: ۱۶۳۸)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں۔ آپ نے فرمایا: ”ہاں! اس کی طرف سے حج کرو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتیں؟“ اس نے عرض کی ہاں! آپ نے فرمایا: ”اللہ کا قرض یعنی نذر ادا کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے“۔

(بخاری: جزاء العید، باب: الحج والندور عن المیت: ۱۸۵۲)۔

۳- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے“۔

(بخاری: الصوم، باب: من مات وعليه صوم: ۱۹۵۲، مسلم: الصیام، قضاء الصیام عن الموت: ۱۱۴۷)۔

۴- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی۔ اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آپ نے فرمایا: ”ہاں!“۔

(مسلم: الوصیة، باب: وصول ثواب الصدقات إلى المیت: ۱۶۳۰)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص (سعد بن عبادہ) نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک مر گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ و خیرات کرتی، اب اگر میں اس کی طرف خیرات کروں تو کیا اس کو کچھ ثواب ملے گا، آپ نے فرمایا: ”ہاں!“۔ (بخاری: الجنائز، باب: موت الفجأة البغنة: ۱۳۸۸، مسلم: الزکاة، باب: وصول ثواب الصدقة عن المیت إليه: ۱۰۰۴)۔

۵- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”مومن کی روح قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے جب تک وہ ادا نہ کر دیا جائے“ (ترمذی: الجنائز: ۱۰۷۸)۔

بعض لوگ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے تیسرے دن، دسویں دن یا چالیسویں دن کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، بعض ہر جمعرات یا ہر سال برسی منا کر کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ بعض قرآن خوانی کرواتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر ثواب مردوں میں تقسیم کرتے ہیں بعض چادر بچھا کر گھلیوں پر سوا لاکھ مرتبہ لا إله إلا الله یاد و شریف پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں ان باتوں کا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کوئی ثبوت نہیں لہذا یہ بدعات ہیں، ان سے بچنا واجب ہے اور ایصال ثواب کے وہی طریقے اختیار کرنے چاہئیں جن کا ثبوت احادیث رسول میں موجود ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے ((الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ)) کہا یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے ”میں بھی ((الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ)) کہہ سکتا ہوں مگر رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ: ”چھینک آنے پر ((الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)) پڑھا جائے“ (ترمذی: الادب: باب ما يقول العاطس اذا عطس: ۲۷۳۸ - امام حاکم (۴/۲۶۶۲۶۵) اور امام ذہبی نے اسے صحیح کہا)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) ”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے“ (بخاری: الصلح: باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ۲۶۹۷)

و مسلم الاقضية: باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور: ۱۷۱۸)

معلوم ہوا کہ دین میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔



پیارے بھائیو اور بہنو!

اللہ قیامت کے روز صرف وہی نماز قبول کرے گا جو نبی رحمت ﷺ کی نماز کے نمونے کے مطابق ہوگی۔

اس کتاب میں آپ نے نبی اکرم ﷺ کی نماز کا پیارا نمونہ دکھ لیا ہے۔ ہماری نہایت خلوص سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی نمازیں اپنے پیارے رسول اکرم ﷺ کے نمونے کی روشنی میں ادا کریں تاکہ ان نمازوں کو اللہ کے پاس قبولیت حاصل ہو۔ اگر آپ کی نماز پر کوئی نکتہ چینی کرے یا احادیث رسول کے مقابلے میں کسی کا قول پیش کرے تو اس کی نادانی سے اجتناب کرتے ہوئے عمل بالحدیث پر کاربند رہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات، سنت اور طریقہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ان کی پیروی نہ کرنا میدان محشر میں باعث ندامت ہوگا۔ فرمایا:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾

”روز محشر گنہگار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ

اختیار کیا ہوتا“ (الفرقان: ۲۷)۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت رسول کرنے کی توفیق دے آمین۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چند ضعیف روایات

الحمد للہ نماز نبوی میں صرف احادیث صحیحہ سے استدلال کیا گیا ہے۔

درج ذیل روایات کو عصر حاضر کے عظیم محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے نماز نبوی میں ان روایات کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ روایات نماز کی بعض کتابوں میں موجود ہیں:

۱- انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے“ [أبو داود: ۱۹، ترمذی: ۱۷۴۶]۔

یہ روایت ضعیف ہے اس میں ابن جریج مدلس ہے اور وہ عن سے روایت کرتا ہے۔
۲- ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت کرتے اور اوڑھنی میں نماز پڑھ لے جبکہ تہبند نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! اگر کرتا لمبا ہے اور قدموں کی پشت کو ڈھانپتا ہے“ [أبو داود: ۶۴۰]۔

اس کی سند میں محمد بن زید بن قنفذ کی ماں ام حرام مجہول ہے، لہذا یہ حدیث مرفوع اور مقوف دونوں ضعیف ہیں۔

۳- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھے، اگر اس کے پاس (رکھنے کے لیے) عصا نہ ہو تو خط کھینچے پھر جو بھی اس کے آگے سے گزرے گا نقصان نہ دے گا“ [أبو داود: ۶۸۹]۔

یہ روایت ضعیف ہے اس میں ابو عمرو بن محمد بن حریش اور اس کا دادا دونوں مجہول ہیں۔

۴- ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حائضہ اور جنبی قرآن مجید نہ پڑھیں“ [ترمذی: ۱۳۱].

یہ روایت ضعیف ہے۔ اسماعیل بن عمیر بن حجاز سے منکر روایات بیان کرتا ہے، اس کا استاذ موسیٰ بن عقبہ حجازی ہے۔

۵- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر بال کے نیچے جنابت ہے پس بالوں کو دھو اور بدن کو پاک کرو“ [ابو داؤد: ۲۴۸].

اس روایت میں حارث بن وجیہ ہے جو ضعیف ہے۔

۶- رسول اللہ ﷺ کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لیتے [ابو داؤد: ۱۳۹].

یہ روایت ضعیف ہے، اس میں لیث بن ابی سلیم حنیف مدلس ہے اور وہ عن سے روایت کرتا ہے۔

۷- عقبہ بن عامر الجنبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ”جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر شہادتین پڑھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں“ [ابو داؤد: ۱۷۰].

یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے۔

۸- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”کوئی شخص وضو کے بغیر اذان نہ دے“.

[ترمذی: ۲۰۰، ۲۰۱].

اس سلسلے کی دونوں روایات ضعیف ہیں، ایک روایت میں معاویہ بن یحییٰ الصدیقی ہے جو ضعیف ہے اور دوسری روایت منقطع ہے، کیونکہ ابن شہاب زہری کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماعت

ثابت نہیں۔

۹- زیاد بن حارث صدائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اذان کہے وہی تکبیر کہے“ [ترمذی: ۱۹۹، أبو داود: ۵۱۴]۔

عبدالرحمن بن زیاد الا فریقی کے ضعف کے بنا پر یہ روایت ضعیف ہے۔

۱۰- بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی جب ”قد قامت الصلاة“ کہا تو رسول اللہ ﷺ نے ”أقامها الله وأدامها“ کہا“ [أبو داود: ۵۲۸]۔

یہ روایت ضعیف ہے اس روایت میں ”رجل من أهل الشام“ مجہول ہے اور محمد بن ثابت ضعیف ہے۔

۱۱- نماز پیمبر کے مصنف ڈاکٹر محمد الیاس فیصل نے اذان اور تکبیر کے مسئلہ میں اپنے فقہی مسلک کی پیروی میں انتہائی بے انصافی سے کام لیا۔

مسنون اذان کے کلمات کے ثبوت میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت [أبو داود: ۴۹۹]، پیش کی لیکن آدھی حدیث کا ذکر کیا۔ روایت میں موجود اقامت کے الفاظ کا ذکر تک نہیں کیا کیونکہ تکبیر کے طاق کلمات ان کے فقہی مسلک میں جائز نہیں تھے۔

اسی طرح اقامت کے الفاظ کے لیے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت [ترمذی: ۱۹۶]، پیش کی لیکن آدھی، حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

”ابو محذورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اذان کے ۱۹ کلمات اور تکبیر کے ۷ کلمات سکھائے“ [ترمذی: ۱۹۶]۔

افسوس ڈاکٹر محمد الیاس صاحب نے فقہی تعصب کا ثبوت دیتے ہوئے اذان کے ۱۹ کلمات کا ذکر تک نہیں کیا کیونکہ اذان میں ترجیح ان کے مسلک میں جائز نہیں ہے۔

ڈاکٹر موصوف نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ انتہائی بے انصافی کا ثبوت دیا، احادیث صحیحہ کو ذکر کرنے کے بجائے اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جائز ناجائز طریقے اختیار کیے۔ ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں:

عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چار برد (۴۸ کلومیٹر) کے لمبے سفر میں نماز قصر پڑھتے اور روزہ افطار کرتے اور چار برد سولہ فرسخ کے برابر ہوتے ہیں [بخاری]۔
بخاری میں یہ روایت سند کے ساتھ موجود نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں بلا سند اس روایت کا ذکر کیا۔ ان کو تعلیقات بخاری کہا جاتا ہے، بخاری کی صحیح روایت میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ یہ حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں:

(تشہد میں پڑھتے ہوئے) جب ”أشهد أن لا إله إلا الله“ پر پہنچے تو ہاتھ کی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے اور ”إلا الله“ پر انگلی کو نیچے کرے (ص ۱۹۶)۔
دوران خطبہ سنتیں نہ پڑھے (ص ۲۴۴)۔

انہوں نے اپنی بات کی کوئی دلیل نقل نہیں کی، ایسا کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں۔ بلکہ یہ بات صحیح احادیث کے خلاف ہے۔

۱۲- علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں“۔

[أبو داود: ۷۵۶]۔

یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ زیاد بن زید مجہول ہے اور عبدالرحمن بن اسحاق الکوفی کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے۔

۱۳- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے رکھو“ [أبو داود: ۷۵۸]۔

اس روایت میں بھی عبدالرحمن بن اسحاق الکوفی ہے جو ضعیف ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹاؤ“

[ابن ماجہ: إقامة الصلاة، باب: ما یکره فی الصلاة: ۹۶۵].

اس کی سند میں حارث بن عبد اللہ الاعودی ہے اور وہ ضعیف ہے۔

۱۴- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ﴿والتین والزیتون﴾ کی تلاوت کرتے ہوئے ﴿ألیس اللہ بأحکم الحاکمین﴾ کہے تو اس چاہیے کہ کہے ”بلی وأنا علی ذلك من الشاہدین“ اور جب سورہ قیامت کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت ﴿ألیس ذلك بقادر علی أن یحیی الموتی﴾ پڑھے تو جواب میں کہے ”بلی“۔

[أبو داود: ۸۸۷، ترمذی: ۳۳۴۷].

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سننے والا اعرابی مجہول ہے، لہذا روایت ضعیف ہے۔

۱۵- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی رکوع میں تین بار ”سبحان ربی العظیم“ کہے تو اس کا رکوع پورا ہوگا اور یہ ادنیٰ درجہ ہے اور جو کوئی سجدہ میں تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ ادنیٰ درجہ ہے“۔

[ترمذی: ۲۶۱، أبو داود: ۸۸۶].

روایت ضعیف ہے کیونکہ عون بن عبد اللہ کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں، لہذا سند منقطع ہے اور اسحاق بن یزید مجہول ہے۔

۱۶- وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ”رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب سجدہ سے اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے“۔

[أبو داود: ۷۳۶، ۸۳۸، ۸۳۹، ترمذی: ۲۶۸].

اس کی ایک سند میں عبد الجبار بن وائل ہے، جس نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا، دوسری سند

میں شریک القاضی ہے جو ضعیف اور مدلس ہے اور عن سے روایت کرتا ہے۔

۱۷- عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ (تشہد میں) اپنی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے“ [أبو داود: ۹۸۹]۔

محمد بن عجلان مدلس ہے اور عن سے روایت کرتا ہے۔

۱۸- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ دو رکعتوں کے بعد (تشہد میں) اس طرح بیٹھتے گویا کہ گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ کھڑے ہو جاتے“۔ [أبو داود: ۹۹۵، ترمذی: ۳۶۶]۔

اس کی سند منقطع ہے کیونکہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا۔

۱۹- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تمہیں نماز میں شک ہو کہ تین پڑھی ہیں یا چار اور زیادہ گمان چار رکعت کا ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرو پھر تشہد پڑھو پھر سلام پھیرو“۔ [أبو داود: ۱۰۲۸]۔

روایت ضعیف اور منقطع ہے، ضعیف ہے اور ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے کچھ نہیں سنا۔

۲۰- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”فرض نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے چاہے نیک ہو یا بد اور چاہے وہ کبیرہ گناہ کرے“ [أبو داود: ۵۹۴]۔

روایت ضعیف ہے کیونکہ مکحول نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا۔

۲۱- سائب بن یزید سے روایت ہے کہ ”جب رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھتے تو مسجد کے دروازے پر اذان دی جاتی“ [أبو داود: ۱۰۸۸]۔

اس روایت میں محمد بن اسحاق مدلس ہے اور عن سے روایت کرتا ہے، علاوہ ازیں یہ منبر کے

پاس اذان دینے کی محفوظ روایت [طبرانی: ۱۴۶/۷] کے خلاف بھی ہے۔

۲۲- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ اس شخص پر فرض ہے جو جمعہ پڑھ کر رات کو واپس اپنے اہل و عیال میں آسکے“ [ترمذی: ۵۰۲]۔

عبداللہ بن سعید المقمری متروک، حجاج بن نصر اور معارک بن عباد ضعیف ہیں۔

۲۳- عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”جمعہ اس شخص پر لازم ہے جو اذان کی آواز سنے“ [ابو داؤد: ۱۰۵۶]۔

اس روایت میں ابوسلمہ بن نبیہ اور عبداللہ بن ہارون مجہول ہیں۔

۲۴- ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”عید کے دن بارش تھی اس لیے رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں نماز عید پڑھائی“ [ابو داؤد: ۱۱۶۰]۔

اس روایت میں عیسیٰ بن عبدالاعلیٰ مجہول ہے۔

۲۵- تکبیرات عید کے الفاظ:

”اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله، واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد“ کے مسنون ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

دارقطنی میں ان الفاظ کی صراحت آئی ہے لیکن امام ذہبی نے اسے سخت ضعیف بلکہ موضوع کہا ہے۔

۲۶- بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وترحق ہے جو وتر نہ پڑھے وہ

ہم میں سے نہیں، آپ نے تین بار فرمایا“ [ابو داؤد: ۱۴۱۹]۔

اس میں عبداللہ بن عبداللہ المنکی المروزی ضعیف ہے۔

۲۷- عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ وتر کی دو رکعت پر سلام نہیں پھیرتے

تھے“ [نسائی: ۱۶۹۸]۔

اس میں قتادہ مدلس ہے جو عن سے روایت کرتا ہے۔

۲۸- عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے سفر میں قصر کیا اور پوری نماز بھی

پڑھی“ [شرح السنة، دار قطنی، بیہقی]۔

ایک سند میں طلحہ بن عمرو ہے جو ضعیف ہے، دوسری سند میں سعید بن محمد بن تواب ہے جس کی جرح و تعدیل موجود نہیں۔

۲۹- عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کو اللہ

تعالیٰ سے یا کسی انسان سے حاجت ہو تو وضو کرے پھر دو رکعت پڑھے اور پھر یہ دعا کریں“۔

[ترمذی: ۴۷۹، ابن ماجہ: ۱۳۸۴]۔

اس میں فائد بن عبد الرحمن متروک ہے۔

۳۰- معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے مردوں پر

سورۃ یسین پڑھو“ [أبو داود: ۳۱۲۱]۔

ابو عثمان اور اس کا والد دونوں مجہول ہیں۔

مصنف کی دیگر کتب

۱ - تجدید ایمان:

حقیقی مسلمان بننے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو، اسے معلوم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کن عقائد کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کن عقائد کی اسے تردید کرنی پڑے گی، کس طرز عمل کو اختیار کرنا پڑے گا اور کس طرز عمل سے اسے بچنا پڑے گا، کیونکہ بعض اقوال و افعال اور اعتقادات ایسے ہیں جن کی بنا پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا فائدہ مند نہیں رہتا۔

ان باتوں کی تفصیل ”تجدید ایمان“ میں سوالات و جواباً بیان کی گئی ہے ”تجدید ایمان“ اردو، انگلش (Renawal of Faith) اور بنگلہ میں شائع ہو چکی ہے۔

۲ - حب رسول کی آڑ میں مشرکانہ عقائد

اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ توحید سے محبت کی جائے، اور ان شہادت کا رد کیا گیا ہے جو محبت رسول کے دعویداروں نے بظاہر محبت رسول کے جذبات ابھار کر محمد کریم ﷺ کی سب سے محبوب شے توحید کی شدید مخالفت اور رسول اللہ ﷺ کی انتہائی ناپسندیدہ شے شرک کی وکالت کرتے ہوئے پھیلائے ہیں۔

۳ - نماز نبوی:

طہارت، وضو، غسل اور نماز پر ایک جامع کتاب ہے۔

جو انگلش میں (Prayer of Mohammed) کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

۴ - اسلامی طرز زندگی:

رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جس طریقہ سے تزکیہ نفس کیا، احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کتاب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب کے مطالعہ سے آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق جان سکتے ہیں، والدین، اولاد، بیوی، رشتہ داروں اور مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جن گندے اور فبیح اخلاق سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تربیت کے حوالے سے نادر کتاب ہے۔

۵ - کبیرہ گناہ اور نواقض اسلام:

وہ عقائد و اعمال جن سے ایک کلمہ گو کافر ہو جاتا ہے نواقض اسلام کہلاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو وضو، نماز، اور عمرہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ایک مسلمان کو ان سے توبہ کرنی پڑتی ہے اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس انسان کا حق ادا کرنا توبہ کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے ان نواقض اسلام اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل اس کتاب میں بیان کی گئی ہے۔

۶ - اسلام میں ماہ محرم کی شرعی حیثیت

۷ - ایمان باللہ اور اس کے تقاضے

